

فضائل اہل بیت

اور

صحابہ کرام

(رضی اللہ عنہم)


(قرآن و حدیث کی روشنی میں)

تصنیف و تالیف

خادم سلطان الفقر

حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن

مدظلہ الاقدس



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضائل
اہل بیت
اور
صحابہ کرام
(رضی اللہ عنہم)
(قرآن و حدیث کی روشنی میں)

تصنیف لطیف

خادم سلطان الفقیر
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

© All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

تصنیف لطیف خادم سلطان الفقر
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

پرینٹر آر۔ ٹی پرنٹرز لاہور

بار اول جنوری 2013ء

تعداد 1000

قیمت 250 روپے

ISBN: 978-969-9795-09-1

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)
لاہور



سلطان الفقر ہاؤس

4/A- ایسیٹیشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.tehreek-dawat-e-faqr.com www.sultan-ul-faqr.com

E-mail: sultanulfaqr@tehrekdawatefaqr.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ عاجز اور غلام
بصد عجز و نیاز و بکمالِ محبت و عقیدت اور عشق
کتاب فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
باعثِ تخلیقِ کائنات، رحمۃ العالمین،
محبوبِ ربِّ العالمین، خاتم النبیین، منبعِ جود و سخا
فخرِ موجودات، فقر کے مختارِ گل اپنے آقا و مولیٰ

حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم

کی بارگاہِ رحمت میں پیش کرتا ہے اور آپ ﷺ کی بارگاہِ رحمت سے
امیدِ کامل ہے کہ آپ ﷺ اس عاجز کی اس کاوش کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں
قبول اور منظور فرمائیں گے اور یہ کتاب اس غلام کے لیے وسیلہ شفاعت
ہوگی۔

فضائل

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
6	حدیثِ دل	
9	فضائل اہل بیت رضی اللہ عنہم	
9	اہل بیت رضی اللہ عنہم	1
11	فضائل اہل بیت رضی اللہ عنہم	2
21	فضائل خاتونِ جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا	3
29	فضائل امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ	4
43	فضائل حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم	5
57	فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم	
57	فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم	6
58	شرف صحابیت کے لیے شرائط	7
60	فضائل صحابہ قرآن مجید میں	8
60	صحابہ کی صفت قرآن کی روشنی میں	9
61	فضائل صحابہ احادیث مبارکہ میں	10

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
70	فضائل خلفائے راشدین	11
70	فضائل خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	12
87	فضائل خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	13
104	فضائل خلیفہ سوم ذوالتورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	14
117	ازواج و بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	15
118	عشرہ مبشرہ	16
118	مہاجرین میں سابقون الاولون	17
119	انصار میں سابقون الاولون اور فضائل انصار	18
122	ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ	19
123	کاتبانِ وحی	20
124	اہل بدر	21
125	اہل احد	22
125	شرکائے خندق	23
126	بیعت رضوان کرنے والے صحابہ	24
126	فتح مکہ	25
127	شان صحابہ	26

حدیثِ دل

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

دنیاے اسلام میں کئی گروہ یا فرقے ہیں ان فرقوں میں ایک گروہ یا فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مخالف ہے اور ایک وہ ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا مخالف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مخالفین اور ان سے بغض رکھنے والوں کو رافضی کہتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے مخالفین اور ان سے بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے یکساں محبت و عقیدت رکھتے ہیں وہی لوگ راہِ حق اور صراطِ مستقیم پر ہیں۔ اول الذکر دونوں فرقے یا گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور جب حق غالب آجاتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں لیکن زیر زمین اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور پھر نئے زمانہ میں نئے ناموں سے کام کرنے لگتے ہیں۔ چودہ سو سالوں سے یہ کھیل جاری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پُر فتن دور میں پیدا فرمایا ہے جس میں ریا کاری، منافقت اور ظاہر پرستی کا نام ”تقویٰ“ رکھ دیا گیا ہے اور اس دور میں مسلمانوں کے پاس صرف ”ظاہر“ ہی رہ گیا ہے۔ متکبر اور زعم تقویٰ میں مبتلا ان فرقوں اور گروہوں کے ظاہر پرست علماء نے مال کی خاطر اس فتنہ کو خوب ہوا دی ہے ان گروہوں کی ہر دور میں ایک نشانی رہی ہے اور وہ ہے تشدد اور جبر۔ اپنے نظریات کا پرچار اور ان کو لوگوں پر جبر اور تشدد سے مسلط کرنا۔ اس پُر فتن دور میں تو ان کے اپنے اپنے ”لشکر“ اور ”سپاہ“ بن چکی ہیں جو اپنے مخالف کی مساجد، عبادت گاہوں، جلوسوں، جلسوں اور راہنماؤں کو بمبوں سے اڑاتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں ہر گروہ کا اپنا ”شہید“ ہے۔

ان گروہوں کے علماء کے چہرے اور بیان عمومی محفلوں اور ٹیلی ویژن پر اور ہوتے ہیں لیکن محفل خاص اور نجی گفتگو میں اور۔ ان نجی محافل میں یہ وہ زہرا گلتے ہیں کہ شیطان بھی شرماتا جائے۔ اگر یہ خلوت اور جلوت میں یکساں ہوتے تو ان کے قبعین کے درمیان اتنی نفرت نہ ہوتی۔

اس پُرفتن دور میں پہلے گروہ کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی یومِ عاشور یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن آتا ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں سارا سال الماریوں میں بند اپنے فرقہ کی کتب نکال کر میز پر سجالتے ہیں اور اپنی نجی محافل میں ان ایام کو منانے کے رد میں دلائل دیئے جاتے ہیں ان ایام کو منانے والوں کو مرتد، مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا جاتا ہے۔ تمام اہل بیت کے بارے میں ان کا عمومی رویہ یہی ہے ہاں صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ ان کا ایمان ہے اور اس میں بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نہ تو ان کو پہچان ہے اور نہ ہی یہ ان کی راہ پر ہیں ان کی راہ تو بغض، تکبر، حسد اور کینہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کو محض ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر یہ اپنا کام چلا نہیں سکتے۔

دوسرے گروہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے امام الصدیقین، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم، مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ذوالقورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام کا نام سن کر سیاہ پڑ جاتے ہیں، پیشانی پر شکنیں اور چہروں پر نکل پڑ جاتے ہیں (نعوذ باللہ) پھر وہ دلائل لاتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات پر جن کا وجود تک نہیں ہے دعویٰ اہل بیت سے محبت کا کرتے ہیں لیکن نہ ان کی راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی ان کی اختیار کردہ راہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا محبت اہل بیت کا دعویٰ بھی ظاہری اور ایک آڑ ہے۔

یہ دونوں گروہ وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض، حسد اور کینہ کی بیماری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو مناقب اور فضائل اہل بیت رضی اللہ عنہم سے آگاہ ہیں اور نہ ہی انہیں عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اندازہ ہے۔ حالانکہ اہل بیت و صحابہ کرام کے بارے میں ذرا سی غلطی اور دل میں معمولی سا غلط خیال ایمان کو

سلب کر دیتا ہے۔

یہ دونوں گروہ اور فرقے تب بڑھ جاتے ہیں جب ظاہر پرستی بڑھ جاتی ہے اور ظاہری علم اور اعمال پر شدت کی وجہ سے لوگ ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ علمِ باطن کے بغیر علمِ ظاہر صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شائِم امدادیہ میں مولد شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

”علماءِ ظاہر کے لیے علمِ باطن بہت ضروری ہے بغیر اس کے کوئی کام درست نہیں ہوتا۔“

موجودہ زمانہ اس فتنہ کی شدت کا زمانہ ہے اور اس دور میں عاجز نے کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائلِ اہلِ بیت و صحابہ کرام بیان کروں۔ یہ ادنیٰ سی کوشش ہے اُمید ہے اللہ رب العالمین اس ادنیٰ سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی صحابی اگر کسی صحابی کی شان و فضائل بیان کر رہا ہے وہی صحابی اہلِ بیت کے مناقب و فضائل بیان کر رہا ہے اگر حدیث کی کسی ایک کتاب میں اہلِ بیت کی شان میں حدیث موجود ہے تو اسی کتاب میں صحابہ کی شان میں بھی حدیث موجود ہے وہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت پر رحم اور کرم فرمائے اور وہ اہلِ بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور فضائل سے آگاہ ہوں کیونکہ دونوں کی یکساں محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

غلامِ اہلِ بیت اطہار و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

سلطان محمد نجیب الرحمن سروری قادری



اہل بیت رضی اللہ عنہم

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرات حسین کریمین رضی اللہ عنہم تھے ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور حسین کریمین رضی اللہ عنہم کو ایک ران پر بٹھایا پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الاحزاب 33)

ترجمہ: اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ”رِجس“ کو دور رکھے اور تمہیں پاک و طاہر کر دے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پردہ اٹھا کر سر داخل کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں فرمایا ”تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔“

﴿ امام احمد رحمہ اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت پنجتن پاک کے بارے میں نازل

ہوئی، میرے بارے میں، علیؑ، فاطمہؑ اور حسینؑ کریمینؑ کے بارے میں۔

✽ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں: ”حضور نبی اکرم ﷺ صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ ﷺ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے آپ ﷺ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسینؑ آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ ﷺ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو آپ ﷺ نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ (الاحزاب 33) (مسلم۔ حاکم۔ ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد صبح کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اَلصَّلٰوَةُ اَهْلَ الْبَيْتِ۔ اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر یہ آیت کریمہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تلاوت فرماتے۔

✽ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چالیس صبح تک حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے: اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلٰوَةُ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ (اے اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے) پھر آیت مبارکہ (اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) تلاوت فرماتے۔

✽✽ رِجْسِ كَيْ مَعْنٰ ✽✽

✽ حضرت ابوزیدؓ سے روایت ہے کہ اس آیت میں ”رِجْسِ“ سے مراد شیطان ہے۔

✽ حضرت ابن عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رجس کا اطلاق گناہ عذاب، نجاستوں اور نقائص پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اہل بیت سے دور فرمادی ہیں۔

✽ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ فتوحات مکیہ کے انیسویں باب میں فرماتے ہیں:-

”چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خالص ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو پاک صاف رکھا اور ان سے ہر عیب کو دور فرمایا کیونکہ عرب کے نزدیک ”رجس“ ہر عیب والی اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

✽✽ اہل بیت رضی اللہ عنہم ✽✽

✽ امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے دُر منشور میں اور بہت سے دیگر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے اہل بیت ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علیؑ، فاطمہؑ اور ان کی اولاد“۔

✽✽ فضائل اہل بیت رضی اللہ عنہم ✽✽

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔“ (امام حاکم۔ ابویعلیٰ)

✽ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم

ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔“ (طبرانی۔ ہیثمی)

✽ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ۔“ (طبرانی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”آل رسول اللہ ﷺ کی ایک خادمہ تھیں جو ان کی خدمت بجالاتی۔ اُسے ”بریرہ“ کہا جاتا تھا پس انہیں ایک آدمی ملا اور کہا: اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو بیشک محمد ﷺ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔“ راوی بیان کرتے ہیں کہ اُس (خادمہ) نے حضور نبی اکرم ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی پس آپ ﷺ اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور آپ ﷺ کے دونوں رخسار مبارک سرخ تھے اور ہم (انصار) حضور نبی اکرم ﷺ کے غصہ کو آپ ﷺ کے چادر کے گھسیٹنے اور رخساروں کے سرخ ہونے سے پہچان لیتے تھے پس ہم نے اسلحہ اٹھایا اور حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں پس اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! اگر آپ ہمیں ہماری ماؤں باپوں اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ ﷺ کے قول کو نافذ کر دیں گے پس آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں

لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمام اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر شق ہوگی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم (نسب و تعلق) فائدہ نہیں دے گا ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں۔ بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو شفاعت میں طمع کی خاطر بلند کرے گا۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اور تمہارے چاہنے والے میرے پاس حوضِ کوثر پر چہرے کی شادابی کے ساتھ اور سیراب ہو کر آئیں گے اور ان کے چہرے (نور کی وجہ سے) سفید ہوں گے اور بے شک تمہارے دشمن حوضِ کوثر پر میرے پاس بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے نسب اور رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔“ (حاکم۔ احمد۔ بزار)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں ”آپ ﷺ نے فرمایا: اہل بیت مصطفیٰ ﷺ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“ (امام ربیع)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا: نیک بیوی، نیک اولاد، لوگوں کے ساتھ حسن

معاشرت اپنے ملک میں روزگار اور آل محمد ﷺ کی محبت۔“ (امام دیلمی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں درخت ہوں اور فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی (رضی اللہ عنہ) اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے اور حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) اس درخت کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں وہ یقیناً یقیناً جنت میں ہیں۔“ (امام دیلمی)

✽ ”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چار شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے والا اور ان کے معاملات کے لیے تنگ و دو کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔“ (امام تقی ہندی)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں۔ ان کے بڑوں کو معاف کر دو اور ان کے نیکو کاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔“ (امام ترمذی۔ ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بیشک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہے اور دوسری میری عمرت یعنی میرے اہل بیت اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔“ (امام احمد)

✽ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے مکہ فتح کیا پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا آٹھ یا سات دن محاصرہ کیے رکھا پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہو گئے پھر پڑاؤ کیا پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک میں تمہارے لیے تم سے

پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور بے شک میں تمہیں اپنی عترت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا..... (امام حاکم)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”جب یہ آیت: فرمادیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت و قربت سے محبت۔“ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ پس ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنار اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنار تمہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے اور دوسری چیز میری عترت ہے اور بے شک اس لطیف خبیر رب تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا

اور فرمایا: پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولیٰ ہے، اے اللہ! جو علی کو اپنا ولی رکھتا ہے تو بھی اسے اپنا ولی رکھ اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔“ (طبرانی)

✽ حضرت مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں ”جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ دن یا انیس دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا: میں اپنی عترت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوضِ کوثر ہوگا اور تم ضرور بالضرور نماز قائم کرو گے اور ضرور بالضرور زکوٰۃ ادا کرو گے یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے اور جو تمہاری گردنیں مارے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اس آدمی سے میری مراد یہ ہے۔“ (امام بزار)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے لوگو! میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔“ (ترمذی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورانِ حج عرفہ کے دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصویٰ پر سوار خطاب فرما رہے ہیں۔ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت ہیں۔“ (ترمذی۔ طبرانی)

✽ ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو

اختلاف سے بچانے والے ہیں اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔“ (امام طبرانی)

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو وہ سلامتی پا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔“ (امام طبرانی۔ بزار۔ حاکم)

✽ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا، نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور آخری زمانہ میں جو ہمیں (اہل بیت کو) قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا ہے۔ (یعنی وہ دجال کے ساتھیوں میں سے ہے)۔“ (امام طبرانی۔ امام قضاوی)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی تین حرمتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان تین کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا سو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی تین حرمتیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے نسب کی حرمت۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں پس جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں گے اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں پس جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔“ (امام دیلمی)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں تو بس ایک انسان ہوں عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو پھر آپ نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی پھر فرمایا: اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔“
(امام مسلم۔ احمد)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا: تم جس سے لڑو گے میں بھی اُس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اُس سے صلح کرنے والا ہوں۔“
(ترمذی۔ ابن ماجہ)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے اور میری عترت یعنی اہل بیت اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو؟“
(ترمذی۔ نسائی۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ کو حرام کر دیا۔“

(حاکم۔ بزار۔ ابونعیم)

✽ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اسے یہ بات پہنچادی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ (امام حاکم)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”وہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے چادر بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور نبی اکرم ﷺ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم بیٹھ گئے پھر آپ ﷺ نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گرہ لگادی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنی امت میں سے سب سے پہلے جس کے لیے میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں، پھر جو قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر انصار کی پھر ان کی جو یمن میں سے مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، پھر تمام عرب کی، پھر عجم کی اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ ”اہل فضل“ ہوں گے۔“ (طبرانی)

✽ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چھ بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی جو کہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے (وہ چھ بندے یہ ہیں): جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو جھٹلانے والا ہو اور ظلم و جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا ہوتا کہ اس کے ذریعے اسے عزت دے سکے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور میری عمرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا تارک۔“ (امام ترمذی ابن حبان اور حاکم)

۱۔ اہل فقر

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔“ (ابن جان۔ حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنو عبدالمطلب! بے شک میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں مانگی ہیں پہلی یہ کہ وہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے اور دوسری یہ کہ وہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے اور تیسری یہ کہ وہ تمہارے جاہل کو علم عطا کرے اور میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ تمہیں سخاوت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے پس اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں قطار میں رکھ کر کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملے جبکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“ (حاکم۔ طبرانی)

✽ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزِ قیامت یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگرچہ وہ نماز، روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گمان ہی کیوں نہ کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ وہ روزہ اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان تصور کرتا ہو اے لوگو! یہ لبادہ اوڑھ کر اس نے اپنے خون کو مباح ہونے سے بچایا اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں حالانکہ وہ گھٹیا اور کینے ہوں پس میری امت مجھے میری ماں کے پیٹ میں دکھائی گئی پس میرے پاس سے جھنڈوں والے گزرے تو میں نے علی (رضی اللہ عنہ) اور اس کے مددگاروں کے لیے مغفرت طلب کی۔“ (طبرانی)

✽ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن خدیج سے

فرمایا: اے معاویہ بن خدیج! ہمارے ساتھ بغض سے بچو کیونکہ بے شک حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ ہم سے کوئی بغض نہیں رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اسے آگ کے چابکوں سے حوضِ کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں تین چیزوں میں سے ایک پائی جاتی ہے: یا تو وہ منافق ہے یا وہ حرامی ہے یا وہ ایسا آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے حاملہ ہوئی ہو۔“ (بیہقی۔ دیلمی)

✽ ”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے کثرتِ مال اور کثرتِ اولاد سے نوازیہ ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ ان کا مال کثیر ہو جائے پس ان کا حساب طویل ہو جائے اور یہ کہ ان کی وجدانیات کثیر ہو جائیں تاکہ ان کے شیاطین کثرت سے ہو جائیں۔“ (امام دیلمی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں پائی جائیں گی نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں: علیؑ سے بغض رکھنا، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا اور یہ کہنا کہ ایمان (نقطہ) کلام (یعنی اقرار باللسان) کا نام ہے۔“ (امام دیلمی)

فضائل

خاتونِ جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

✽ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے اللہ رب

العزت کی قسم! کسی شخص کے گھر میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتیں۔“
(متفق علیہ)

✽ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ”انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا: بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے۔ میں انہیں اجازت نہیں دیتا دوبارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اُس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔“ (مسلم۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ)

✽ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ (رضی اللہ عنہا) تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے اُسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔“ (مسلم۔ نسائی)

✽ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری جگر گوشہ ہے اُسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔“ (ترمذی۔ احمد)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے۔“ (حاکم۔ طبرانی)

✽ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری شاخ ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور جس سے اُسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔“ (امام احمد۔ حاکم)

✽ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی

تو وہ رونے لگیں پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اکرم ﷺ نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ آپ ﷺ کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی پھر آپ ﷺ نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت میں، سب سے پہلے میں آپ ﷺ سے ملوں گی اس پر میں ہنس پڑی۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا: حضور نبی اکرم ﷺ کو کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ عرض کیا گیا: مردوں میں سے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اُن کے شوہر جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے تھی اور مردوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔“ (ترمذی۔ نسائی۔ حاکم)

✽ حضور نبی اکرم ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے آخر میں جس شخص سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس ہستی کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں۔“ (امام ابوداؤد۔ احمد)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف نظر التفات کی اور فرمایا: جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا جو تم سے صلح کرے گا میں اُس سے صلح کروں گا۔“ (امام احمد۔ حاکم)

✽ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

عنها حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ رضی اللہ عنہا کو خوش آمدید کہتے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھالیتے۔“ (امام حاکم، نسائی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے انہیں بوسہ دیتے خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھالیتے اور جب آپ ﷺ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آپ ﷺ کے دست اقدس کو بوسہ دیتیں۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے آخر میں جس شخص سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس شخصیت کے پاس تشریف لاتے وہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں اور یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے: میرے ہاں باپ تجھ پر قربان ہوں۔“ (امام حاکم۔ ابن حبان)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو میرے اور سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔“ (طبرانی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”اے فاطمہ (رضی اللہ عنہا)! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو۔“ (متفق علیہ)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ

عنها تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم ﷺ کے چلنے جیسا تھا۔ پس آپ ﷺ نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھالیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رورہی ہیں؟ پھر آپ ﷺ نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا: آپ سے حضور نبی اکرم ﷺ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: آپ ﷺ نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ دور کیا ہے، میرا خیال یہی ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آملوگی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو! تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترتا تھا، اُس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔“ (ترمذی۔ نسائی۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے زمین پر چار لکیریں کھینچیں اور فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں“ پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔“ (امام احمد۔ نسائی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ (رضی اللہ عنہا)! کیا تم نہیں چاہتیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں کی اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو!“ (نسائی۔ حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، پس اُس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اُس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔“ (بخاری۔ طبرانی)

✽ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا پھر آپ ﷺ نے پانی منگوا یا، اس سے وضو کیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پانی ڈال کر فرمایا: اے اللہ! ان دونوں کے حق میں اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔“ (نسائی۔ طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی کرم اللہ وجہہ سے کروں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میں تم اور یہ دونوں (حسن و حسین) اور یہ سونے والا (حضرت علی رضی اللہ عنہ) اس وقت سو کر اٹھے تھے (روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔“ (امام احمد۔ امام بزاز)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک آواز دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا: اے اہل محشر! اپنی نگاہیں جھکا لو تا کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔“ (امام حاکم۔ خطیب بغدادی)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدانِ محشر

میں تشریف لائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر لائے جائیں گے اور مجھے براق پر لایا جائے گا جس کا قدم اُس کے منہ پر پڑے گا اور میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مجھے براق پر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میری سواری عضباء پر بٹھایا جائے گا۔“ (امام ابن عساکر)

✽ ”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے بتایا: سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں (یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ) فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پیچھے ہوں گے۔“ (امام حاکم۔ ابن عساکر)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیئے جائیں گے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواجِ مطہرات آپ ﷺ کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہاں تشریف لے آئیں تو اللہ کی قسم! اُن کا چلنا حضور نبی اکرم ﷺ کے چلنے سے ذرہ بھر مختلف نہ تھا۔“ (متفق علیہ)

✽ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ ﷺ سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔“ (امام ترمذی۔ ابوداؤد)

✽ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”میں نے اندازِ گفتگو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور نبی اکرم ﷺ سے اس قدر مشابہت

امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ وہ آٹھ برس کی عمر میں اسلام لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔“

✽ ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“ (متفق علیہ)

✽ ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی (ایک جگہ کا نام) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کو میرے پاس لاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، اس وقت وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور انہیں جھنڈا عطا کیا، اللہ

محبت کرنے والوں (غلاموں) کو آگ سے نجات دے دی ہے۔“ (امام ربیع)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور کہا: ”اے فاطمہ! خدا کی قسم! میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا اور خدا کی قسم! لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔“ (حاکم۔ ابن ابی شیبہ۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔“ (امام طبرانی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل اُن کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔“ (امام طبرانی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔“ (امام ابو نعیم)

فضائل

امیر المومنین، امیر العارفين

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔“ (ترمذی۔ احمد۔ حاکم)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ”سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔“

رکھنے والا نہیں دیکھا۔“ (بخاری۔ نسائی۔ ابن حبان)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے خصوصی دعا فرمائی: اے اللہ! میں اس (سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا) اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔“ (امام ابن حبان احمد۔ طبرانی)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی (رضی اللہ عنہ) اور حضرت فاطمہ الزہرا (رضی اللہ عنہا) سے بڑھ کر حضور نبی اکرم ﷺ سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔“ (امام احمد)

✽ اُم المؤمنین حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ”جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سے ملنے باہر گئے تھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے اماں! میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولیں: اماں جی! مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں۔ ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا پھر فرمایا: اماں جی: اب میری وفات ہو جائے گی، میں پاک ہو چکی ہوں لہذا مجھے کوئی نہ کھولے پس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔“ (امام احمد)

✽ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر ماں کی اولاد کا عصبہ (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے کہ میں ہی اُن کا ولی اور میں ہی اُن کا نسب ہوں۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ (رضی اللہ عنہا) رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے

تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیر فتح کر دیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی: ”آپ فرمادیں کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں۔“ تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ حضرت فاطمہؑ حضرت حسن اور حضرت حسینؑ کو بلایا اور کہا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“ (امام مسلم۔ ترمذی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمرو بن ہند فرماتے ہیں ”حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر میں حضور نبی اکرم ﷺ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ ﷺ مجھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔“ (ترمذی۔ نسائی)

✽ حضرت جابرؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علیؑ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی لوگ کہنے لگے آج آپ ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی سو آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔“ (امام ترمذی۔ ابن ابی عامر)

✽ حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علیؑ! میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن سرد سے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علیؑ! میرے اور تمہارے علاوہ حالت جنابت میں کوئی اس مسجد کو بطور راستہ استعمال نہیں کر سکتا۔“ (ترمذی۔ بزاز۔ ابویعلیٰ)

✽ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علیؑ بھی تھے میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ! مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علیؑ کو (واپس بخیر و عافیت) نہ دیکھ لوں۔“ (ترمذی۔ طبرانی)

✽ حضرت علیؑ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالبحرہ (مدینہ منورہ) لے کر آئے اور

بلا لکوبھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو اور حق گوئی نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمانؓ پر رحم فرمائے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیؓ پر رحم فرمائے اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔“ (ترمذی۔ حاکم۔ طبرانی)

✽ حضرت حبشی بن جنادہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: علیؓ مجھ سے اور میں علیؓ سے ہوں اور میری طرف سے میرے اور علیؓ کے سوا کوئی دوسرا (ذمہ داری) نہیں کر سکتا۔“ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”جب حضور نبی اکرم ﷺ نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علیؓ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے ”ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا، آپ ﷺ نے دعا کی: یا اللہ! اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی تشریف لے آئے اور آپ ﷺ کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔“ (ترمذی۔ طبرانی)

✽ حضرت بریدہؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت علیؓ تھے۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت جمیع بن عمیر تمیمیؓ سے روایت ہے ”میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا: لوگوں میں کون حضور نبی اکرم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، پھر عرض کیا گیا اور

مردوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا: ان کے خاوند (یعنی حضرت علیؑ) اگرچہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور قیام فرمانے والے تھے۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت حنشؑ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضرت علیؑ کو دو مینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لہذا میں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔“ (امام ابوداؤد۔ امام احمد)

✽ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”اس ذات کی قسم جس کا میں حلف اٹھاتی ہوں! حضرت علیؑ لوگوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز حضور نبی اکرم ﷺ کی عیادت کی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا علیؑ آ گیا ہے؟۔ آپ ﷺ نے ایسا کئی مرتبہ فرمایا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو کسی ضروری کام سے بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت علیؑ تشریف لائے تو میں نے سمجھا انہیں شاید حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کوئی کام ہوگا سو ہم باہر آگئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی پس حضرت علیؑ حضور نبی اکرم ﷺ پر جھک گئے اور آپ ﷺ سے سرگوشی کرنے لگے پھر اسی دن حضور نبی اکرم ﷺ وصال فرما گئے پس حضرت علیؑ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اکرم ﷺ کے قریب تھے۔“ (احمد۔ حاکم)

✽ حضرت اسامہؓ اپنے والد (حضرت زیدؓ) سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جعفرؓ حضرت علیؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ ایک دن اکٹھے ہوئے تو حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ﷺ کو محبوب ہوں اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ﷺ کو محبوب ہوں اور حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ﷺ کو پیارا ہوں پھر انہوں نے کہا: چلو حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت

اقدس میں چلتے ہیں اور آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ پس وہ تینوں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کرنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: جعفرؓ، علیؓ اور زید بن حارثہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں اجازت دو پھر وہ داخل ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فاطمہؓ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے مردوں کے بارے میں عرض کیا ہے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے جعفرؓ! تمہاری خلقت میری خلقت سے مشابہ ہے اور میرے خلق تمہارے خلق سے مشابہ ہیں اور تو مجھ سے اور میرے شجرہ نسب سے ہے اے علیؓ! تو میرا داماد اور میرے دو بیٹوں کا باپ ہے اور میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے اور اے زیدؓ! تو میرا غلام اور مجھ سے اور میری طرف سے ہے اور تمام قوم سے تو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (امام احمد۔ امام حاکم)

✽ حضرت عمرو بن مہمونؓ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے کسی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو اس کے پیچھے بھیجا پس انہوں نے وہ سورت اس سے لے لی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس سورت کو سوائے اس آدمی کے، جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں کوئی اور نہیں لے جاسکتا۔“ (امام احمد)

✽ حضرت ابوسعید خدریؓ بیان فرماتے ہیں ”لوگوں نے حضرت علیؓ کے بارے میں کوئی شکایت کی۔ تو حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پس میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! علیؓ کی شکایت نہ کرو اللہ کی قسم! وہ ذات حق تعالیٰ میں یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بہت سخت ہے۔“ (امام احمد۔ امام حاکم)

✽ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”بے شک حضور نبی اکرم ﷺ جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں سے آپ ﷺ کے ساتھ سوائے حضرت علیؓ کے

کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔“ (طبرانی۔ حاکم)

✽ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بھیجا جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل تم سے راضی ہیں۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہاں میں نہیں پڑتے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے سوال نہ کر لیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کہ اس حال میں اسے ختم کیا؟ اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے یہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور میرے اہل بیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شانے پر مارا۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ سلمہ بن کبیل سے روایت فرماتے ہیں ”میں نے ابو طفیل سے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولیٰ ہوں اس کا علی مولیٰ ہے۔“ (امام ترمذی)

✽ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔“ (امام ترمذی۔ احمد)

✽ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا وہ مجھے سُرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: علی (کرم اللہ وجہہ) میرے لیے اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور فرمایا: میں آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا

ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علی مولیٰ ہے۔“ (نسائی)

✽ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کا علی ولی ہے اور میں نے آپ ﷺ کو حضرت علیؓ سے یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ۔ نسائی)

✽ حضرت براء بن عازبؓ روایت فرماتے ہیں ”ہم نے حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حج ادا کیا، آپ ﷺ نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا حکم دیا، اس کے بعد حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: پس یہ (علی) ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولیٰ ہوں۔ اے اللہ! جو اسے ولی رکھے اسے تو بھی ولی رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے اُس سے تو بھی عداوت رکھ۔“ (ابن ماجہ)

✽ حضرت بریدہؓ سے روایت ہے ”میں نے حضرت علیؓ کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھے ان سے کچھ شکایت ہوئی۔ جب میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے حضرت علیؓ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں تنقیص کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے بریدہ! کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟“ تو میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علی مولیٰ ہے۔“ (امام احمد۔ نسائی۔ حاکم اور ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت میمون ابو عبد اللہ ؓ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضرت زید بن ارقم ؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک وادی..... جسے وادی خم کہا جاتا ہے..... میں اترے۔ پس آپ ﷺ نے نماز کا حکم دیا اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھر ہمیں خطبہ فرمایا اور حضور نبی اکرم ﷺ کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے درخت پر کپڑا لٹکا کر سایہ کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نہیں جانتے یا گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کی جان سے قریب تر ہوں؟“ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: پس جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علی مولیٰ ہے اے اللہ! تو اُس سے عداوت رکھ جو اس سے (یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ) عداوت رکھے اور اُسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔“ (امام احمد۔ بیہقی۔ طبرانی)

✽ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے غدیر خم کے دن فرمایا: جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علی مولیٰ ہے۔“ (امام احمد۔ طبرانی)

✽ ابو اسحاق فرماتے ہیں ”میں نے حضرت سعید بن وہب ؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت علی ؓ نے لوگوں سے قسم لی جس پر پانچ (۵) یا چھ (۶) صحابہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا: جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علی مولیٰ ہے۔“ (احمد نسائی)

✽ حضرت عمرو بن میمون ؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا کے بیٹوں سے فرمایا: تم میں سے کون دنیا و آخرت میں میرے ساتھ دوستی کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی ؓ اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کر دیا تو حضرت علی ؓ نے عرض کیا: میں آپ ﷺ کے ساتھ دنیا و آخرت میں دوستی کروں گا اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علیؓ تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ حضرت علی ؓ سے آگے ان میں سے ایک اور آدمی کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم میں سے دنیا و آخرت میں میرے ساتھ کون دوستی کرے گا؟ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس پر

پھر حضرت علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کروں گا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علیؑ! تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔“ (امام احمد۔ ابن ابی عامر۔ حاکم)

✽ حضرت یزید بن عمر بن مورتق روایت فرماتے ہیں ”ایک موقع پر میں شام میں تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؑ لوگوں کو (انعامات سے) نوازرہے تھے۔ پس میں بھی ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ میں نے کہا: قریش سے۔ انہوں نے پوچھا کہ قریش کی کس شاخ سے؟ میں نے کہا: بنی ہاشم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس خاندان سے؟ راوی فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس خاندان سے؟ میں نے کہا: مولا علیؑ کے خاندان سے۔ انہوں نے پوچھا کہ علیؑ کون ہیں؟ میں خاموش رہا۔ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: ”بخدا! میں بھی حضرت علی بن ابی طالبؑ کا غلام ہوں۔“ اور پھر فرمایا کہ مجھے بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علیؑ مولیٰ ہے۔“ پھر مزاحم (داروغہ خزانہ) سے پوچھا کہ اس قبیلہ کے لوگوں کو کتنا دے رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا: سو (۱۰۰) یا دو سو (۲۰۰) درہم۔ اس پر انہوں نے فرمایا: ”حضرت علی بن ابی طالبؑ کی قرابت کی وجہ سے انہیں پچاس (۵۰) دینار زیادہ دو اور ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ساٹھ (۶۰) دینار اضافی دینے کی ہدایت کی اور اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا: آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں، آپ کے پاس آپ کے قبیلہ کے لوگوں کی طرح حصہ پہنچ جائے گا۔“ (امام ابو نعیم اور ابن عساکر)

✽ حضرت عمروزی مر اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے غدیر خم کے مقام پر خطاب کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا میں مولیٰ ہوں اُس کا علیؑ مولیٰ ہے، اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اُسے دوست رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے تو اُس سے عداوت رکھ اور جو اس کی نصرت کرے اُس کی تو نصرت فرما اور جو اس کی اعانت

کرے تو اُس کی اعانت فرما۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ بیشک علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں اُس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے کی گئی اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ہم میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے۔..... وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ (بریدہ بیان فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوا جب تک میں نے تجدید بیعت نہ کر لی۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اُسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں جس نے اُسے ولی جانا اُس نے مجھے ولی جانا اور جس نے مجھے ولی جانا اُس نے اللہ تعالیٰ کو ولی جانا اور جس نے علی سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اُس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اُس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔“ (دیبی۔ متقی ہندی، ابن عساکر)

✽ حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا: کیا تم لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی پناہ یا میں نے کہا: اللہ کی ذات پاک ہے یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔“ (امام نسائی۔ احمد۔ حاکم)

✽ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”اہل شام سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بُرا بھلا کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہنے سے منع کیا اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تو نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ (پھر یہ آیت پڑھی:) ”بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اُس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔“ پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث بنتا۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی) طرف دیکھ کر فرمایا: اے علی! تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔“ (حاکم)

✽ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرماتے ہوئے سنا۔ مبارک باد ہو اسے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور ہلاکت ہو اس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔“ (حاکم، ابو یعلیٰ طبرانی)

✽ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب (مٹی والے) سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا، جب انہیں ابو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ راوی (ابو حازم) نے ان سے کہا: ہمیں وہ واقعہ سنائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا

نام ابوتراب کیسے رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا: ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علیؑ گھر میں نہیں تھے آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہوگئی جس پر وہ خفا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر قبولہ بھی نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص سے فرمایا: جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ حضرت علیؑ کے پاس تشریف لے گئے آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی، حضور نبی اکرم ﷺ اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے: اے ابوتراب اٹھو اے ابوتراب اٹھو۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔“ (ترمذی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ ﷺ تمام لوگوں سے افضل ہیں اور آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور پھر حضرت عمرؓ اور یہ کہ حضرت علیؑ کو تین فضیلتیں عطا کی گئیں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جس سے ان کی اولاد ہوئی اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروادئے مگر ان کا دروازہ مسجد میں رہا اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم ﷺ نے خیبر کے دن جھنڈا عطا فرمایا۔“ (امام احمد)

✽ حضرت عبداللہؓ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے۔“ (احمد۔ طبرانی)

✽ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے پاس سردارِ عرب کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا: میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں اور علی (رضی اللہ عنہ) عرب کے سردار ہیں۔“ (امام حاکم۔ ابونعیم)

✽ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: علیؑ اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پر آئیں گے۔“ (حاکم۔ طبرانی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علیؑ ایک ہی نسب سے ہیں۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سبقت لے جانے والے تین ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے حضرت یوشع بن نون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے صاحبِ یاسین ہیں اور حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف سبقت لے جانے والے علی بن ابی طالب ہیں۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: یہ علی بن ابی طالبؑ ہے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت عبد اللہ بن حکیمؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج وحی کے ذریعے مجھے حضرت علیؑ کی تین صفات کی خبر دی یہ کہ وہ تمام مؤمنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں اور نورانی چہرے والوں (اہلِ فقر) کے قائد ہیں۔“ (امام طبرانی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت: ”بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو رحمن ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرمادے گا۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مراد مومنین کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے۔“ (امام طبرانی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔“ (امام طبرانی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھالیا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو چالیس آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔“ (امام ابن ابی شیبہ)

فضائل حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے لیے کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے تھے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد (حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی) اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل واسحاق (علیہم السلام) کے لیے ان کلمات کے ساتھ تعوذ کرتے تھے: میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر (دوسرے اندازی کرنے والے) شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (بخاری۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سینہ سے سر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ سینہ سے نیچے پاؤں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں۔ (امام ترمذی۔ امام احمد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اکثر اوقات حاضر ہوتا اور دیکھتا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر لوٹ

پوٹ ہو رہے ہوتے اور حضور نبی اکرم ﷺ فرما رہے ہوتے: یہ دونوں ہی تو میری امت کے پھول ہیں۔“ (امام نسائی)

✽ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں اے اللہ جو حسینؑ سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ۔ حسینؑ نو اسوں میں سے ایک نو اسہ ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے (ایک روایت میں ہے کہ جنتی نو جوانوں کے سردار کو دیکھے) وہ حسینؑ بن علیؑ کو دیکھے۔“

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسینؑ چلتے ہوئے آئے اور آغوش رسالت میں گر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فرمایا ”اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ۔“

✽ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسینؑ کا لعاب دہن چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آدمی کھجور چوستا ہے۔“

✽ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نماز ادا فرما رہے تھے جب سجدہ میں تشریف لے گئے تو حسین کریمین رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے جب لوگوں نے انہیں روکنا چاہا تو آپ ﷺ نے لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو پھر جب نماز ادا فرما چکے تو آپ ﷺ نے دونوں کو اپنی گود میں لے لیا۔“ (امام نسائی)

✽ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عبدالمطلبؓ کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں میں (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، حمزہؓ، علیؓ، جعفرؓ، حسنؓ، حسینؓ اور مہدیؓ (رضی اللہ عنہم)۔“ (ابن ماجہ حاکم)

✽ حضرت ابو معدل عطیہ طفاویؓ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں انہیں ام المومنین

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن جب حضور نبی اکرم ﷺ میرے گھر تشریف فرماتے ایک خادم نے عرض کیا: دروازے پر مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے حکم فرمایا: ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے اپنے اہل بیت سے ملنے دو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں پاس ہی گھر میں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پس علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ داخل ہوئے اس وقت وہ کم سن تھے تو آپ ﷺ نے دونوں بچوں کو پکڑ کر گود میں بٹھالیا اور دونوں کو چومنے لگے۔“ (امام احمد)

✽ حضرت ابو جعفرؑ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ حسین کریمین رضی اللہ عنہم کو اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ کیا خوب سواری ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: سوار بھی کیا خوب ہیں۔“ (امام ابن شیبہ)

✽ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خبردار! یہ مسجد کسی جنبی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں سوائے رسول اللہ ﷺ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ کے۔ آگاہ ہو جاؤ! میں نے تمہیں نام بتادیئے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔“ (بیہقی)

✽ حضرت علیؑ نے فرمایا ”جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک حضور نبی اکرم ﷺ کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حضرت حسن بن علی (رضی اللہ عنہ) کو دیکھے لے اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں حضور نبی اکرم ﷺ کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہ) کو دیکھے لے۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابورافعؑ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یہ آپ کے بیٹے ہیں انہیں کچھ وراثت میں عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حسنؑ کے لیے میری ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت ہے اور حسینؑ کے

لیے میری طاقت و سخاوت کی وراثت ہے۔“ (امام طبرانی)

✽ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”انہوں نے اپنے بابا جان حضور نبی اکرم ﷺ کے مرض وصال کے دوران امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم کو آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حسنؑ میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے اور حسینؑ میری جرأت و سخاوت کا وارث ہے۔“ (طبرانی۔ شیبانی)

✽ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا: حسن و حسین (رضی اللہ عنہم) کہیں گم ہو گئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو راوی کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ چل پڑا آپ ﷺ مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اڑدھا اپنی دم پر کھڑا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ ﷺ اس کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ اڑدھا حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر سکر گیا پھر کھسک کر پتھروں میں چھپ گیا پھر آپ ﷺ حسین کریمین رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو پونچھا اور فرمایا: میرے ماں باپ تم پر قربان تم اللہ کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ چار ٹانگوں (گھنٹوں اور دونوں ہاتھوں کے بل) پر چل رہے تھے اور آپ ﷺ کی پشت مبارک پر حسین کریمین رضی اللہ عنہم سوار تھے اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”تمہارا اونٹ کیا خوب اونٹ ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو۔“ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہونے پر

ان کے کانوں میں نماز والی اذان دی۔“ (ترمذی۔ ابوداؤد۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور عقیدہ ایک ایک دنبہ (امام نسائی نے دو دو دنبوں کا ذکر کیا ہے) ذبح کیا۔“ (ابوداؤد۔ بیہقی۔ طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”جب امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) مجھے حضور نبی اکرم ﷺ نے بلا کر فرمایا: مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ ﷺ نے ان کے نام حسن و حسین (رضی اللہ عنہم) رکھ دیے۔“ (امام احمد۔ ابویعلیٰ۔ حاکم)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ وہ حسن (رضی اللہ عنہ) ہے پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ وہ حسین (رضی اللہ عنہ) ہے پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس کا نام محسن (رضی اللہ عنہ) ہے۔ پھر فرمایا: میں نے ان کے نام ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں۔“ (امام احمد۔ حاکم۔ ابن حبان)

✽ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن

بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لائیں۔ لہذا آپ ﷺ نے ان کا نام حسن رکھا اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں لا کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ اس (حسن) سے زیادہ خوبصورت ہے لہذا آپ ﷺ نے اس (حسن) کے نام سے اخذ کر کے اس کا نام حسین رکھا۔“ (امام عبدالرزاق)

✽ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ: ”آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں“ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حسینؑ کو بلایا، پھر فرمایا: یا اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“ (مسلم ترمذی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ہستیاں حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) ہیں، ان کے نانا جان اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کی نانی جان خدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ عنہا) ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے والد محترم علی بن ابی طالب، ان کے چچا جان جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی جان ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں جان قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ جان رسول اللہ ﷺ کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا جنتی ہیں، ان کے والد جنتی ہیں، ان کی والدہ جنتی ہیں، ان کے چچا جنتی ہیں، ان کی پھوپھی جنتی ہیں، ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وہ دونوں حسنین کریمین (رضی اللہ عنہم) خود بھی جنتی ہیں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”نجران کا ایک وفد حضور نبی اکرم

ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ روح اللہ، کلمۃ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وفد نے آپ ﷺ سے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہ تھے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جیسے تمہاری مرضی پھر آپ ﷺ گھر تشریف لائے اور اپنے بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے جانے کے لیے جمع کیا۔ ان عیسائیوں کے ایک سردار نے ان سے کہا کہ اس ہستی سے مباہلہ مت کرو۔ اللہ کی قسم! اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں بچے گا۔ پھر وہ عیسائی حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا: اے ابوالقاسم! ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں نے آپ سے مباہلہ کا ارادہ کیا تھا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: عذاب نے نجران کو گھیر لیا تھا۔ (امام حاکم)

✽ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ میں ہوگا۔“ (ترمذی۔ احمد)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسن اور حضرت حسین (رضی اللہ عنہم) سے فرمایا: جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کی اس نے درحقیقت مجھ ہی سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔“ (ابن ماجہ۔ نسائی۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں (حسین کریمین) سے بھی محبت کرے۔“ (نسائی، ابن خزیمہ)

✽ حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کپڑے پر پھھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی طرف دیکھو، پھھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے (امام حسین رضی اللہ عنہ) کو شہید کیا ہے اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”حسن اور حسین ہی تو میرے گلشنِ دنیا کے دو پھول ہیں۔“ (ترمذی، نسائی، احمد)

✽ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کریمین رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھ کر بارگاہِ الہی میں عرض کیا: اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔“ (ترمذی)

✽ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ کسی چیز کو اپنے جسم سے چٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے کیا چیز چٹا رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم تھے۔ فرمایا: یہ میرے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔“ (ترمذی، ابن حبان)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: آپ کو اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتے۔“ (ترمذی، ابویعلیٰ)

✽ حضرت ابو بربیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے

اتنے میں حسین کریمین رضی اللہ عنہم تشریف لائے انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ منبر سے نیچے تشریف لے آئے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھالیا پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے: ”تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔“ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگوروک کر انہیں اٹھالیا۔“ (ترمذی۔ نسائی)

✽ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ حضرت حسن یا حسین (رضی اللہ عنہم) کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھادیا پھر نماز کے لیے تکبیر ادا کی اور نماز پڑھنا شروع کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم ﷺ نے طویل سجدہ کیا۔ شداد نے کہا: میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادہ سجدے کی حالت میں آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار ہے۔ میں پھر سجدہ میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ نے نماز میں اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہ تھی مگر یہ کہ میری پیٹھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے۔“ (امام نسائی۔ احمد)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کے ایک کندھے پر امام حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے کندھے پر امام حسین رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ آپ ﷺ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ ہمارے پاس آ کر رک گئے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (امام احمد۔ امام حاکم)

✽ حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حسین کریمین رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آئے پس ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالا پھر دوسرا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈالا بعد ازاں ایک کو چوما اور پھر دوسرے کو چوما اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا: اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان سے محبت کیوں نہ کروں! حالانکہ میرے گلشنِ دنیا کے یہی تو وہ پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگھتا رہتا ہوں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ عنہم) کے رونے کی آواز سنی تو پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا: بیشک اولاد آزمائش ہے میں ان کے لیے غیر ارادی طور پر کھڑا ہو گیا ہوں۔“ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت یزید بن ابوزیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہم دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تیزی سے پہنچے۔ (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

سے یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے شہزادوں کو کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو آواز دی: کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاووں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر کسی کو قطرہ پانی تک نہ ملا۔ آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ایک شہزادہ مجھے دو انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑ لیا۔ پس آپ ﷺ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ پس آپ ﷺ نے اُس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی وہ اُسے چوسنے لگا حتیٰ کہ سیرابی کی وجہ سے سکون میں آ گیا میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آواز نہ سنی جب کہ دوسرا شہزادہ بھی اُسی طرح رو رہا تھا پس حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دوسرا شہزادہ بھی مجھے دے دو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرے شہزادے کو بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے حوالے کر دیا حضور نبی اکرم ﷺ نے اس سے بھی وہی معاملہ کیا سو وہ دونوں شہزادے یوں خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ اُن کے رونے کی آواز نہ سنی۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو سلام کیا۔ اتنے میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہم میں سے ایک شہزادہ گھر سے باہر آ گیا حضور نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ تو آنکھ کا تارا ہے، حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں ہاتھ سے پکڑا پس وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔ پھر دوسرا شہزادہ حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف تکتا ہوا باہر آ گیا تو اسے بھی فرمایا: خوش آمدید اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ بھی آنکھ کا تارا ہے اور حضور نبی اکرم ﷺ نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑا پس وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دوسرے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے تو میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟“ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں ان سے محبت کیوں نہ کروں یہ دونوں تو میرے پھول ہیں۔“ (امام بزاز)

✽ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں روانہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں پچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی (کرم اللہ وجہہ)! خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: حسن اور حسین رضی اللہ عنہم میرے بیٹے ہیں جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) سے محبت کی۔ اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ کا غضب ہوا اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اللہ نے اُسے آگ میں داخل کر دیا۔“ (امام حاکم)

✽ ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے لیے فرمایا: ”جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی اور جس سے میں محبت کروں اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتا ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا: ”جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے ہاں

مبغوض ہو گیا اور جو میرے ہاں مبغوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا اور جو اللہ کے ہاں غضب یافتہ ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا۔ اس کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علیؑ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا تا آنکہ لوگ جدا جدا کر دیئے جائیں گے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حسنؑ اور حسینؑ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“ (ترمذی)

✽ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے چار مردوں میں سے ہو (دو چار) میں تم، حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔“ (احمد۔ طبرانی)

✽ حضرت علیؑ بیان فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے میں (یعنی حضرت علیؑ خود) فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔“ (حاکم)

✽ حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی: اے پروردگار! تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں نے تجھے حسن اور حسین (رضی اللہ عنہم) کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کر دیا؟۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آسمان کے ایک

فرشتے نے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسنؑ اور حسینؑ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔“ (نسائی۔ طبرانی)

✽ حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ایک مرتبہ جنت نے دوزخ پر فخر کیا اور کہا میں تم سے بہتر ہوں دوزخ نے کہا: میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے دوزخ سے پوچھا کس وجہ سے؟ دوزخ نے کہا: اس لیے کہ مجھ میں بڑے بڑے جابر حکمران نمرود اور فرعون ہیں۔ اس پر جنت خاموش ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی کی اور فرمایا: تو عاجز و لا جواب نہ ہو میں تجھے دوستوں حسنؑ اور حسینؑ کے ذریعے مزین کر دوں گا۔ پس جنت خوشی اور سرور سے ایسے شرمائی جیسے دلہن اپنے جملہ عروسی میں شرماتی ہے۔“ (امام طبرانی)

پس اے اہل ایمان یاد رکھو! اہل بیتؑ سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے وہ مردود، ملعون، لعنتی، خارجی اور دوزخی ہے۔





صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

✽ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“

قدیم زمانے میں جب کارواں رات کو صحرا میں سفر کرتے تھے تو ستاروں کی مدد ہی سے راستے کا پتہ چلاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مبارک بھی اسی طرف ہے کہ میرے کسی ایک صحابیؓ کی بھی پیروی کر لو گے تو صراطِ مستقیم پا جاؤ گے۔

صحابی کے معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں اور صحابہ صحابی کی جمع ہے، صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے خواہ صحبت کی مقدار کچھ بھی ہو۔ اور اصلاً حایہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت اختیار کی اور دین اسلام کو نہ صرف خود قبول کیا بلکہ اسے دنیا میں قائم و نافذ کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عاشقینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین اور امت مسلمہ کا سب سے اعلیٰ گروہ، ممتاز طبقہ اور اعلیٰ ترین جماعت ہے یہ حضرات نور کا وہ مینار ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر امتحان اور آزمائش میں پورے اترے۔

صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جو جمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ وہ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔

شرف صحابیت کے لئے شرائط

عہد رسالت اور بعثت سے قبل ہزاروں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیا لفظ صحابی کا اطلاق ان سب پر ہو گا یا یہ ایک مخصوص سعادت ہے جو چند شرائط سے مشروط ہے:

✽ مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب کے نزدیک ایسا شخص جو سال دو سال ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ایک یاد و غزوات میں شریک رہا ہو، صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔

✽ بعض علماء کے پاس حدیث روایت کرنے کی شرط ہے یعنی ایسا صحابی جو مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں امت تک پہنچائی ہوں۔

✽ علامہ سخاوی نے اپنی کتاب ”فتح المغیث“ میں فرمایا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو نہ صرف طویل مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو بلکہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ”کامل اتباع“ (ظاہر و باطن میں) بھی ہو۔ ان کے خیال میں اس مقصد سے ہٹ کر اسلام قبول کرنے کے بعد صرف شرف ملاقات حاصل کرنے والے صحابی ایسے ہیں جیسے وفود میں آنے والے عام لوگ..... جن علماء نے اس اصول میں نرمی برتی انہوں نے کہا کہ وہ بالغ مسلمان جس نے ثبات عقل و ہوش میں ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلایا جاسکتا ہے۔

✽ قاضی عبدالبر نے اپنی کتاب ”استعیاب“ اور ابن ہندہ نے ”معرفة الصحابة“ میں اس کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ اور انہوں نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مسلمان خواہ اس

نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرفِ ملاقات حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو صحابی تسلیم کیا ہے۔

✽ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحابیت کیلئے کم سے کم یہ شرط عائد کی ہے کہ حالتِ ایمان میں شرفِ ملاقات حاصل کیا ہو دیکھنا ضروری نہیں کہ بعض ملنے والے نابینا بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن ام کلثومؓ۔

✽ شرفِ صحابیت کے لئے ”اسد القابہ“ میں حضرت امام احمد بن حنبلؓ کا یہ قول ملتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایک مہینہ ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ حالتِ ایمان میں دیکھا ہو اور پھر اس متاعِ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔

عام معیار زہد و تقویٰ، اتباعِ رسول اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالتِ ایمان میں دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو صحابی کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

الغرض کوئی غوثیت، قطبیت اور زہد و تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے لیکن فضیلت میں اس عام صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو دن بھر بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرا کر گرد آلود ہاتھ پاؤں کے ساتھ مسجدِ نبوی میں آتا اور وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکوع و سجود کا شرف حاصل کرتا تھا اور دیدارِ محبوب سے اپنی نگاہوں اور روح کو سیراب کرتا تھا۔

مقامِ صحابیت کے تعین کے بعد ایمان میں سبقت، استقامت اور قربِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے صحابہ کرام کی فضیلت کی درجہ بندی کی گئی ہے۔

روئے زمین کی اولین ہستی جس نے منصبِ نبوت سے مستفید چہرہ رسولِ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا وہ خوش نصیب خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریکِ حیات اور منس و غمگسار ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے

مطابق اولیت ایمان کے لحاظ سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکرؓ ابن قحافہ ہیں۔ عورتوں میں یہ سعادت اُم المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کے حصے میں آئی۔ نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالبؓ ایمان لائے۔ آزاد کردہ غلاموں میں یہ شرف حضرت زیدؓ کو حاصل ہوا۔ انہیں ”اول المسلمین“ کہا جاتا ہے۔

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید میں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا:-

- ❖ ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے“۔ (المائدہ-119)
- ❖ ”وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے“۔ (توبہ-100)
- ❖ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے“۔ (الفتح-18)
- ❖ ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ لوگ اللہ کی جماعت (حزب اللہ) ہیں خوب سن لو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے“۔ (البجادہ-22)

صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت قرآن کی روشنی میں

- ❖ ”محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایسے

ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں۔ (سورہ فتح)

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث مبارکہ میں

✽ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر فرمایا یا تین زمانوں کا۔ (پھر فرمایا) پھر تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ خیانت کریں گے حالانکہ وہ امین نہیں بنائے جائیں گے۔ وہ نذریں مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے اور جسمانی اعتبار سے وہ خوب موٹے تازے ہوں گے۔“ (بخاری)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: میری امت کے بہترین لوگ اس قرن (یعنی زمانہ) میں ہیں جو میرے قریب ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے کسی ایک کی گواہی اس کی قسم پر سابق ہوگی اور اس کی قسم اس کی گواہی پر سابق ہوگی۔“ (مسلم - ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر لوگ اس زمانہ کے ہیں، جس میں میں موجود ہوں اور اس کے بعد دوسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے۔“ (مسلم - احمد)

✽ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں میرے زمانہ بعثت کے لوگ بہتر ہیں پھر ان سے متصل زمانہ کے لوگ بہتر ہیں۔ راوی

کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانہ کا ذکر فرمایا یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گے امانت میں خیانت کریں گے اور ان میں موٹا پامام ہوگا۔“ (ترمذی۔ ابوداؤد۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن مولہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ”جب میں اہواز میں چل رہا تھا تو اچانک میں نے اپنے سامنے نچر پر سوار ایک آدمی دیکھا، وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ میرے زمانے کے لوگ اس امت سے جا چکے ہیں۔ اے اللہ مجھے بھی ان سے ملا دے۔ میں نے کہا: میں بھی تمہاری دعا میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو وہ آدمی کہنے لگا اور میرا یہ دوست بھی اگر یہ اسی طرح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ ایسا فرمایا یا نہیں (مجھے یاد نہیں) پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جن میں موٹا پامام بہت زیادہ پایا جائے گا وہ شہادت کے لیے خون بہائیں گے لیکن اس کی تمنا نہیں کریں گے (راوی فرماتے ہیں) جب میں نے دیکھا تو وہ شخص حضرت بریدہ اسلمیؓ تھے۔“ (احمد، ابویعلیٰ)

✽ حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانہ میں موجود ہوں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے بعد والوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گا۔“ (طبرانی۔ ابونعیم)

✽ حضرت جابرؓ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں ”آپ ﷺ نے فرمایا: اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔“ (ترمذی)

✽ حضرت واثلہ بن اسقعؓ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خدا کی قسم! تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے

دیکھا اور میری صحبت اختیار کی۔ خدا کی قسم! تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کی۔“ (ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عبدالرحمن جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس دوران دو گھڑ سوار نمودار ہوئے پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو فرمایا: دو کنڈی مذحجی! ہیں یہاں تک کہ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مذحج سے آئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر سکے پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آدمی کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے مبارکباد ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ وہ آدمی چلا گیا اور دوسرا آدمی آگے بڑھا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا تا کہ اسے بیعت کر سکیں تو وہ آدمی عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو آپ کی اتباع اور تصدیق کرے لیکن آپ کی زیارت نہ کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دو دفعہ مبارکباد ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر وہ آدمی وہاں سے چل دیا۔“ (امام احمد۔ طبرانی)

✽ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے اللہ! میرے صحابہ کو بخش دے اور اسے بھی بخش دے جس نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”اور جس نے مجھے دیکھا“ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں (یعنی صحابہ کرام کو) دیکھا (یعنی تابعین کرام)۔“ (طبرانی۔ ابونعیم)

✽ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں ”ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا: تم ابھی تک یہیں ہو؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں تا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہت اچھا کیا یا فرمایا: تم نے ٹھیک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے تھے پھر فرمایا: تارے آسمان کے لیے بچاؤ ہیں اور جب تارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ (یعنی قیامت) آجائے گی اور میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بھی وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ (مسلم، احمد)

✽ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ میں سے جو صحابی زمین کے کسی خطے پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس خطہ زمین کے لوگوں کے لیے نور اور رہنما بن کر اٹھے گا۔“ (ترمذی)

✽ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی آدمی کو اس طرح نہ ڈھونڈا جائے جس طرح گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی۔“ (امام احمد)

✽ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہ کے اُس اختلاف کے بارے میں پوچھا جو میرے بعد ہوگا تو مجھ پر وحی کی گئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں۔ بعض بعض سے روشنی میں افضل ہیں اور ہر ایک کو روشنی حاصل ہے، پس جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ لے لیا تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔“ (امام دیلمی)

✽ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”جابیہ کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح تشریف فرماتے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور فرمایا: میرے صحابہ کا خیال رکھنا اور پھر جوان کے بعد لوگ ہوں گے ان کا اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی نہیں لی جائے گی اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔“ (ابن ماجہ)

✽ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نمک کے بغیر کھانا اچھا نہیں ہوتا پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا۔ (امام ابن ابی شیبہ۔ امام احمد)

✽ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: خبردار! میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جوان کے بعد آئیں گے.....“ (ابن حبان۔ ماکم۔ طبرانی)

✽ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے دروازے پر ہمیں خطاب کیا اور فرمایا: بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور فرمایا:

اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں سے بچنا۔“ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔“ (امام ابو نعیم - قضا)

✽ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ، جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو بھی خاموش ہو جاؤ۔“ (طبرانی)

✽ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا: ہاں اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔“ (امام ابو نعیم)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے: ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی ایک بڑی جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہاں، تو پھر انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کثیر جماعت جہاد کرے گی تو ان سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پانے والوں کی صحبت پائی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں! تو انہیں فتح دے دی جائے گی۔“ (سنن علیہ)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس

نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت پائی ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی صحبت پائی ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔“ (بخاری)

✽ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کو بُرا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ (بخاری۔ ترمذی۔ ابوداؤد)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کو بُرا مت کہو میرے صحابہ کو بُرا مت کہو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھریا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ (مسلم۔ نسائی۔ ابن ماجہ)

✽ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی عنقریب اس کی گرفت ہوگی۔“ (ترمذی۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو بُرا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو: تمہارے شرکی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔“ (ترمذی۔ طبرانی)

✽ حضرت نسیر بن ذعلوق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”اصحاب رسول ﷺ کو بُرا مت کہو پس ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام

اعمال سے بہتر ہے۔“ (ابن ماجہ۔ ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کی عزت کرو پھر ان کی جوانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر ان کی جوانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدمی قسم طلب کیے جانے سے پہلے قسم اٹھالے گا اور گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دے دے گا پس جو جنت کی وسعت کا طالب ہے تو اس پر لازم ہے جماعت کو لازم پکڑے اور جدائی اور تفرقہ سے بچے۔ بے شک شیطان ایک کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے اور کوئی آدمی ہرگز کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کیونکہ ان میں شیطان ہے اور جس کو اس کی نیکی خوش اور بُرائی پریشان کرے وہی مومن ہے۔“ (نسائی۔ طبرانی۔ طحاوی)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے صحابہ قلیل تعداد میں۔ پس میرے صحابہ کو بُرا بھلا مت کہو اور جس نے انہیں بُرا بھلا کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔“ (طبرانی۔ ابویعلیٰ)

✽ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے صحابہ کا میری وجہ سے دفاع کیا اور عزت کی توقیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔“ (امام احمد)

✽ حضرت عوفیم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ دار اور انصار، پس جنہوں نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔“ (ماہم طبرانی۔ ابن ابی عامر)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کی بُرائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔“ (امام ربیع)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے مروی ہے ”اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف توجہ کی تو قلبِ محمد مصطفیٰ ﷺ کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا پس اسے اپنے لیے چن لیا اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم ﷺ کے دل کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوبِ انسانی کو دیکھا تو آپ ﷺ کے صحابہ کرام ؓ کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی مکرم ﷺ کا وزیر بنا دیا وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں (اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ ﷺ کے دین کا مددگار بنا دیا) پس جس شے کو مسلمان اچھا جانیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی اور جس شے کو مسلمان بُرا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بُری ہے۔“ (امام احمد۔ بزار۔ طبرانی۔ بیہقی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قابل قبول نہیں؛ اگر وہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں اسے تلاش کرو جو تم میں موجود ہو اور اگر میری سنت میں بھی نہ ہو تو میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق کرو اور فرمایا: میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پر ستارے ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے اور میرے صحابہ کا اختلاف (بھی) تمہارے لیے رحمت ہے“ (بیہقی)

علامہ ابن حجر کی اپنی تصنیف ”اسنی المطالب فی صلۃ الاقارب“ میں فرماتے ہیں:- ”مسلمان پر لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب و احترام کرے، ان سے راضی ہو، ان کے فضائل و حقوق پہچانے اور ان کے اختلافات سے زبان روکے۔“

حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں: ”صحابہ کرامؓ کو گالی دینا اور ان کی تنقیص حرام ہے، اس کا مرتکب ملعون ہے۔“ امام مالکؒ فرماتے ہیں ”جس شخص نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک گمراہی پر تھا، قتل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی، اسے سخت سزا دی جائیگی۔“

فضائل خلفائے راشدین

سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کو تمام صحابہؓ پر فضیلت حاصل ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل آپ فضائل اہل بیت میں پڑھ چکے ہیں باقی تین خلفائے راشدین کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں:-

فضائل امام صدیقین خلیفۃ الرسول یارِ عار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درجات اور مراتب میں اس قدر بلند ہیں کہ آپ ﷺ کو عارفین کے سردار، متقی لوگوں میں سب سے اعلیٰ اصحاب تجرید و تفرید کے امام راسخ الایمان، رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صدیقین اور افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی عارف حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ سالکین کے لئے آپ ﷺ مشعلِ راہ ہیں۔ سالک یا طالب کے لئے ضروری ہے کہ پورے خلوص اور صدق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ میں نبی ہوں تو وہ کسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر ایمان لے آئے اور جب یہ فرمایا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی اور آپ ﷺ امام صدیقین اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو دوسرے گروہ کا نام آپ ﷺ کے لقب صدیق پر صدیقین رکھا اور اس گروہ کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

✽ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا یعنی انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین۔ (النساء: 69)

یہاں صدیقین سے مراد عارفین ہیں۔ صدیق کا مرتبہ کئی صحابہ ﷺ کو حاصل تھا لیکن امام صدیقین اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

✽ مَا فَضَّلَ أَبَا بَكْرٍ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بِكَثْرَةِ التَّلَاوَةِ وَالصَّوْمِ وَلَكِنْ شَيْئًا وَقَدَرْتَنِي قَلْبِهِ ۝

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نماز، تلاوت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دل میں قرار پانے والی ایک اعلیٰ چیز کی وجہ سے ہے جو میری محبت ہے۔ اس سے ثابت ہوا تقویٰ، ایمان، کامل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عشق ہے اور یہی صدق ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاشقین بھی ہیں اور یہ بات آپ ﷺ کے ہر عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

✽ مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا قَدْ صَبَّتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ ۝

ترجمہ: جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی تو میں نے اس کو ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے۔

✽ سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سلطان الوہم میں فرماتے

ہیں:

سالک یا طالب مولیٰ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے کہ بصدق دل اور اخلاص دل سے اپنا تمام مال اپنی جان اور آل اولاد اپنے مرشد کامل پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرے جب اس طرح کے طالب صادق کا اور مرشد کامل اکمل کا آپس میں اتصال اور اتحاد ہوتا ہے تو ان کا کام روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اور ان کا معاملہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔

لَوْ وَدَّ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ مَعَ إِيمَانِ النَّاسِ لَوَجَّعَهُ ۝ ترجمہ: اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان سب پر غالب آ جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں میں کون سی چیز حجاب تھی؟ وہ صدق ہے۔ کیونکہ باعتبار صدق جو فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ فیض کیوں نہ حاصل کیا؟ اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف تو سب پر اس طرح برابر تھا جس طرح سورج کی روشنی ہر چیز پر برابر پڑتی ہے مگر فیض کا حصول بقدر استعداد ہوتا ہے۔

پر تو خورشید عشقت برہم تابد لیکن سنگ بیک نوع نیست تا گو ہر شونہ
ترجمہ: سورج کی روشنی تو ہر ایک پتھر پر برابر پڑتی ہے لیکن تمام پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے کہ لعل یا قیمتی موتی بن جائیں۔

پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پس اسی طرح ہر انسان کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ ہر ایک میں اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے اسی استعداد کے مطابق ہر ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض حاصل کیا پس اسی طرح پیر (مرشد کامل اکمل) اور مرید (سالک یا طالب) دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اگر ایک طرف بھی کمزوری یا کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کام انتہا کو نہیں پہنچتا یعنی پیر کامل ہو لیکن مرید صادق نہ ہو یا مرید صادق ہو پیر کامل نہ ہو تو بھی معاملہ نہیں بنتا اور کامیابی

حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”پیر کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اور مرید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔“

✽ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي**
الثَّنِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً (سورہ
 توبہ 40) ”اگر تم میرے حبیب کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی جب کافروں نے
 انہیں نکالا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب کہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے
 صاحب کو کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنا
 خاص سکون نازل فرمایا۔“

مفسرین فرماتے ہیں! ”صاحب“ ابو بکر صدیق تھے اور ان پر ہی سکون نازل کیا گیا تھا کیونکہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پر سکون رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام زمین والوں پر عتاب فرمایا اور
 ارشاد فرمایا: **”إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ“**۔

ارشادِ ربانی ہے: **”وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ**
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝ (سورہ ایل 17-21) ”اور
 آگ سے بچے گا وہ بہت متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا
 جائے مگر ربِ اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔“

تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی:

✽ حضرت ہمام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرماتے
 ہوئے سنا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پانچ غلاموں
 دو عورتوں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ (امام بخاری)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔“ حضرت عمرؓ گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ فرمایا: ”مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے۔“ (امام ابن حبان۔ امام بزار)

✽ حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عمرو بن عبسہؓ نے بتایا کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اُس وقت آپ ﷺ عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اس دین پر آپ کی (اولین) اتباع کس نے کی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس پر میری اتباع دو مردوں نے کی ہے ایک آزاد اور ایک غلام، وہ ابو بکرؓ اور بلالؓ ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اُس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ (بخاری۔ حاکم)

✽ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا ”جب حضور نبی اکرم ﷺ کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ ﷺ نے صبح لوگوں کو اس کے بارے میں بیان فرمایا تو کچھ ایسے لوگ بھی اس کے منکر ہو گئے جو آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے اور آپ ﷺ کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: کیا آپ اپنے آقا ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی؟ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا: کیا آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: اگر آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا آپ اُن کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس تک گئے بھی اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ہاں! میں تو آپ ﷺ کی تصدیق اُس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے بہت زیادہ بعید از قیاس ہے، میں تو صبح و شام آپ ﷺ کی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پس اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ ”الصدیق“ کے لقب سے موسوم ہوئے۔“ (حاکم، عبدالرزاق، ابویعلیٰ)

✽ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”ہم ایسے چار افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو سوائے ابو قحافہ، ابو بکر، عبدالرحمن بن ابی بکر اور ابو عتیق بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے۔ اور ابو عتیق کا نام ”محمد“ تھا۔“ (طبرانی۔ حاکم۔ بخاری)

✽ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ”قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو دو جلدوں کے درمیان جمع کیا۔“ (ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق آپ کی خوب روئی کی وجہ سے رکھا گیا اور آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل! میری قوم (واقعہ معراج میں) میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابو یحییٰ، حکیم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ”میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ”الصدیق“ آسمان سے اتارا گیا۔“ (طبرانی۔ حاکم)

✽ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ ذات السلاسل کا امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا: مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس کے والد (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا: پھر اُن کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر بن خطاب کے ساتھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بعد چند دوسرے صحابہ کے نام لیے۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنی چادر کا کنارہ پکڑے حاضر خدمت ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کا گھٹنا ننگا ہو گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے یہ ساتھی لڑ جھگڑ کر آرہے ہیں۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور بتایا کہ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں ندامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ تین مرتبہ فرمایا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نادم ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے بارے میں پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا: نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کی قسم! میں ہی زیادتی کرنے والا تھا۔ انہوں نے یہ دو مرتبہ عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ پھر دو مرتبہ فرمایا: کیا تم میرے ایسے ساتھی سے میرے لیے درگزر (نہیں) کرو گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کبھی اذیت نہیں دی گئی۔“ (بخاری شریف)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔“ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

✽ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہم سب سے بہتر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں پھر ابو بکر سے پھر عمر سے پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو ان سے زمین شق ہوگی پھر میں ان سب کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔“ (امام حاکم۔ احمد)

✽ امام زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کلام کہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کلام پڑھو تا کہ میں بھی سنوں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے: وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ (جبل ثور) پر چڑھے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے اور تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ وہ (یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو ان کے برابر شمار نہیں کرتے ہیں۔ (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حسان تم نے سچ کہا وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا ہے۔“ (امام حاکم۔ ابن سعد)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ہماری یہ حالت ہوتی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے۔ پس اُس بندے نے اُس چیز کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ بعد

ازاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جسے اختیار دیا گیا تھا خود تاجدارِ کائنات ﷺ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت اہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان (کسی تازہ کی) کی صلح کرادیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ تو اسی دوران حضور نبی اکرم ﷺ واپس تشریف لے آئے اور لوگ ابھی نماز میں تھے۔ پھر آپ ﷺ صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالی کی آواز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ مگر چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حالتِ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرتے تھے اس لیے انہوں نے توجہ نہ کی۔ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجائیں تو وہ متوجہ ہوئے اور حضور نبی اکرم ﷺ کو دیکھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم ﷺ نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے بٹے اور صف میں مل گئے۔ حضور نبی اکرم ﷺ آگے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے ابو بکر! جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ ﷺ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ ﷺ کی عمر مبارک تریسٹھ (۶۳) سال تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک بھی تریسٹھ سال تھی۔“ (مسلم)

✽ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا۔ میں نے (اپنے آپ سے) کہا، اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکا تو آج سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتنا ہی مال اُن کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کچھ اُن کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں ان سے کسی شے میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔“ (ترمذی۔ ابوداؤد)

✽ حضرت طارق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب سورہ الحجرات کی یہ آیت: ”بیشک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چُن کر خالص کر لیا ہے۔“ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سرگوشی میں بات کروں گا، جس طرح رازدان سرگوشی کرتے ہیں۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”کفار و مشرکین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر جسمانی اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے: تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اُن ظالموں نے کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے جو مجنون بن چکا ہے۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت

فرماتے ہیں ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ فراق میں ان کا جسم کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔“ (امام ماکم)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے یوم ولادت کے حوالے سے میرے پاس بیٹھے ہوئے مذاکرہ ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر کے اعتبار سے (بھی) بڑے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ (۶۳) برس تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک بھی تریسٹھ (۶۳) برس تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اڑھائی سال ہی عمر مبارک میں بڑے تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا میں حیات رہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”جب غار کی رات تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوں تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے۔ جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے۔ یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اُس سوراخ پر رکھ دیا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی گزارش کی۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اے ابو بکر! تمہارا لباس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اُس کے بارے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا گیا ہے۔“ (امام ابو یوسف)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ ﷺ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے عباؓ پہنی ہوئی تھی جسے اپنے سینے پر خلالؓ سے جوڑا ہوا تھا اس وقت حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عباؓ پہن کر اسے اپنے سینے پر ٹانکا ہوا ہے؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے جبرائیل! انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہیں، کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور دریافت فرمایا ہے کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں اپنے رب کریم پر ناراض ہوں گا؟ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔ میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔“ (امام ابو نعیم)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اگر میں اپنی اُمت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں رہتے تھے، سے روایت ہے ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ کے مرض وصال کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں تک کہ پیر کا دن آ گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کی حالت میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس دوران حضور نبی اکرم ﷺ نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ﷺ کا چہرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی

۱۔ سامنے سے کھلا ہوا لباس جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے ۲۔ لکڑی کا ٹکڑا جس سے بٹن کی طرح کپڑے کو ملایا جاتا ہے

طرح ہے پھر آپ ﷺ تبسم ریز ہوئے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دیدار کی خوشی میں نماز توڑ دیں پھر حضرت ابو بکرؓ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں اور گمان کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کرو اور پردہ نیچے سر کا دیا۔ پھر آپ ﷺ کا اسی دن وصال ہو گیا۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت محمد بن جبیر بن مطعمؓ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں ”ایک عورت نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ﷺ نے اُسے دوبارہ آنے کا حکم فرمایا، اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں آؤں اور آپ ﷺ کو نہ پاؤں تو؟ (محمد بن جبیر فرماتے ہیں کہ) میرے والد نے فرمایا: گویا وہ عورت آپ ﷺ کا وصال مراد لے رہی تھی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکرؓ کے پاس آ جانا۔“ (متفق علیہ)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے مرض وصال میں فرمایا: ابو بکرؓ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکرؓ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثرت گریہ کی وجہ سے لوگوں کو (قرأت) نہیں سناسکیں گے۔ آپ حضرت عمرؓ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کریں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سنانہ پائیں گے۔ پس آپ حضرت عمرؓ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہی کیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: رُک جاؤ! بے شک تم صواحبِ یوسف (یعنی زبانِ مصر) کی طرح ہو۔ ابو بکر کو (میری طرف سے) حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ (بخاری۔ ترمذی)

✽ أم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا: ”کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ان میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان کی امامت ان کے علاوہ کوئی اور شخص کروائے۔“ (ترمذی)

✽ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ”انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا جبکہ میں غار میں تھا: اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو یقیناً ہمیں دیکھ لے گا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! ان دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہو۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم حوض (کوڑ) پر میرے ساتھی ہو گے اور غار (ثور) میں بھی میرے ساتھی تھے۔ (ترمذی)

✽ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے اور حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ دوسرے تھے وہ غار میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ دوسرے تھے وہ غزوہ بدر کے عریش (وہ چہر جو حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے بنایا گیا تھا) میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ دوسرے تھے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ دوسرے ہیں اور رسول اللہ ﷺ ان پر کسی کو بھی مقدم نہیں سمجھتے تھے۔“ (امام حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اُسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے! یہ خیر ہے پس جو اہل صلوة میں سے ہوگا اُس کو باب الصلوة سے بلایا جائے گا اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اُسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اُسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو اہل صیام (روزہ داروں) میں سے ہوگا اُسے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اُسے تو خدشہ ہی کیا ہے۔ پھر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں!

اے ابو بکر! مجھے اُمید ہے کہ تم اُن ہی لوگوں میں سے ہو۔“ (بخاری۔ نسائی۔ احمد)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آج کے دن تم میں سے کون روزہ دار ہے؟“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔“ (مسلم۔ نسائی)

✽ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم عتیق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ پس اُس دن سے آپ رضی اللہ عنہ کا نام ”عتیق“ رکھ دیا گیا۔“ (ترمذی۔ ابن حبان۔ حاکم)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری اُمت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً تم تو میری اُمت کے وہ پہلے شخص ہو جو جنت میں اُس دروازہ سے داخل ہوگا۔“ (ابوداؤد۔ حاکم)

✽ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے ”ایک روز حضور نبی اکرم ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: مسجد میں کسی کی کھڑکی باقی نہ رہنے دی جائے مگر ابوبکرؓ کے گھر کی کھڑکی قائم رکھی جائے۔“ (متن علیہ)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے گھیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا۔ میرے کپڑے کا ایک کونہ عموماً لٹک جاتا ہے سوائے اس صورت کے کہ میں اس کی احتیاط کروں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم ایسا ازراہ تکبر نہیں کرتے۔“ (بخاری۔ نسائی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ اپنے مرض وصال میں باہر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے اپنا سر انور کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس آپ ﷺ منبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی پھر فرمایا: اپنی جان و مال کے اعتبار سے ابوبکر بن ابی قحافہ سے بڑھ کر مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں۔“ (بخاری۔ نسائی)

✽ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، مجھے سوار کر کے دارالہجرت (مدینہ منورہ) لے گئے اور اپنے مال سے بلالؓ کو آزاد کروایا۔“ (ترمذی۔ ابویعلیٰ)

✽ حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اس طرح مخاطب ہوئے ”اے رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے بہتر انسان۔“ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکانہ دیا ہو سوائے ابوبکر صدیقؓ کے۔ بیشک اُن کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔“ (ترمذی)

✽ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر ؓ سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور غلاموں کو آزاد کروا دیتے ہو۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تندو مند اور طاقت ور غلاموں کو آزاد کرواؤ تا کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں اور تمہاری خاطر لڑ سکیں۔ حضرت ابو بکر ؓ نے عرض کیا: اے ابا جان میرا مقصد وہ ہے جو ان آیات کا مقصد ہے: پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور تقویٰ اختیار کیا۔ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی۔ تو ہم عنقریب اسے آسانی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک: اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ مگر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔“ (امام حاکم۔ امام احمد)

✽ حضرت اسد بن زرارہ ؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ”میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو نہ دیکھا تو آپ ﷺ نے پکارا: ابو بکر! ابو بکر! روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میں سے میرے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق ؓ ہیں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت معاذ بن جبل ؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کو آسمان پر یہ پسند نہیں کہ ابو بکر ؓ سے زمین پر کوئی خطا سرزد ہو۔“ (طبرانی)

✽ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ”جب حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے عائشہ! یہ دودھ دینے والی اونٹنی دیکھ لو جس کا ہم دودھ پیتے تھے اور یہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا پکاتے تھے اور یہ کبیل جسے ہم اوڑھتے تھے ہم ان چیزوں سے اس وقت تک نفع حاصل کرنے کے مجاز تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور خلافت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر جب فوت ہو جاؤں تو یہ سب کچھ حضرت عمر ؓ کو لوٹا دینا۔ پھر جب حضرت ابو بکر ؓ فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ چیزیں حضرت عمر ؓ کی طرف بھجوا دیں۔ اُس وقت حضرت عمر ؓ نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ

تعالیٰ آپ سے راضی ہو آپ نے اپنے بعد ہر آنے والے کو تھکا دیا ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔“ (طبرانی)

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”بلاشبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے غار کے ساتھی ہیں۔ وہ ثانی اشین (بار غار) ہیں اور ہم ان کے شرف و بزرگی اور ان کے مرتبہ کو جانتے ہیں۔ بے شک انہیں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا حکم دیا تھا۔“ (امام حاکم - بیہقی)

✽ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ابوبکر سے محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔“ (امام دیلمی - خطیب بغدادی)

فضائل



امام عدل مراد رسول

خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ



دوسرے خلیفہ راشد، اہل ہدایت کے راہبر، یگانہ زمان، جہان کے بادشاہ عادل، نصیب وافر سے بہرہ مند، نفسِ کافر پر سب سے زیادہ سخت گیر، اصحاب کے سپہ سالار، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالبِ مولیٰ کو عدل اور محاسبہ نفس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ ”رشید الامر“ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر معاملہ میں درست کار اور صحیح الرائے تھے کسی کام میں بھٹکنے والے نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے رتبے اور درجے میں اس قدر بلند و بالا اور ارفع ہیں کہ تاریخ عالم میں اور کہیں دوسری نظیر نہیں ملتی۔

آپ کا نام عمر کنیت ابو حفص ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا

لقب عطا فرمایا اور آپ تاریخ میں عمر فاروقؓ کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی ولادت باسعادت 583ء کی ایک شب کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ خود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں فجر اعظم ثانی یعنی عربوں کی دوسری بڑی جنگ کے آغاز سے چار سال پہلے پیدا ہوا۔

شروع میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی کفار و مشرکین مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی۔

”اے اللہ! تو عمر بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطابؓ دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔“ راوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب حضرت عمرؓ بن خطابؓ تھے۔ (ترمذی احمد ابن حبان)

تو اللہ کے ہاں یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں قبول ہوئی۔ ایک روز حضرت عمرؓ تیغ بکف اپنے گھر سے نکلے تو بنی زہرہ کے ایک فرد نے راستہ میں پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمرؓ بولے ”میرا ارادہ محمد ﷺ کو قتل کرنے کا ہے۔ اس شخص نے کہا تو پھر بنی ہاشم اور بنی زہرہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، حضرت عمرؓ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی دین آباء سے نکل چکے ہو اس پر اس شخص نے کہا ایک بات کہوں تو حیرانی ہوگی کہ تمہاری بہن ام جمیل فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید (رضی اللہ عنہما) نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمرؓ غضب ناک ہو کر ان کے پاس پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل حضرت خباب بن ارتؓ اس وقت گھر میں سورۃ طہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمرؓ بن خطاب کی بہن اور بہنوئی نے حضرت خباب بن ارتؓ اور سورۃ کے اوراق کو چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے لکارا شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر بہنوئی سعید بن زیدؓ نے کہا کہ اگر جس پر تم ہو وہی دین گمراہی کا دین ہو تو؟ حضرت عمرؓ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے بھائی سے اپنے شوہر کو چھڑانا چاہا تو حضرت عمرؓ نے انہیں طمانچہ اس شدت سے رسید کیے کہ چہرہ لہولہاں ہو گیا آخر وہ بھی عمرؓ بن خطاب کی بہن تھیں بے خوف

ہو کر جوش سے کہا: ”عمرؓ میں اللہ کو معبودِ حقیقی اور محمد ﷺ کو اس کا نبی برحق مانتی ہوں“۔ حضرت عمرؓ نے حالات سے مایوس ہو کر بہن سے وہ اوراق طلب کئے جن کی تلاوت کی جا رہی تھی تو بہن نے اوراق دینے سے انکار کر دیا۔ اس لئے کہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب تھے۔ یعنی پڑھنے والا طیب و طاہر ہو۔ حضرت عمرؓ نے فریضہ تجسس سے ان آداب کو قبول کیا اور غسل و وضو کے بعد کتابِ معرفت دیکھنی شروع کر دی ابھی ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ تک ہی پہنچ پائے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ اور پکاراٹھے ”مجھے محمد ﷺ کے پاس لے چلو“ یہ سنتے ہی حضرت خبابؓ جلدی سے باہر آگئے اور کہا کہ مجھے یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروقؓ دارِ ارقم کی طرف چل پڑے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں قیام فرماتے تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمرؓ نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یا محمد مصطفیٰ! بے شک اہل آسمان نے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی ہیں۔ (ابن ماجہ ابن حبان، حاکم)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ محدث و ملہم من اللہ تھے۔ محدث یہاں ملہم (صاحب الہام) کے معنی میں ہے یعنی وہ روشن ضمیر شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔ اس کو محدث اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت (اللہ تعالیٰ) بات کرتی ہے اس کو وہ بات بتاتی ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی پھر وہ شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے لغت حدیث کی کتاب مجمع الجار میں لکھا ہے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ محض نورِ فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور یہ مرتبہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نوازنا چاہے ابو سلمہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی

اللہ عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے ”گزشتہ اُمتوں میں کچھ اشخاص محدثین ہو گزرے ہیں اور میری اُمت میں یہ منصب عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔“

✽ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پچھلے ادوار میں مختلف اُمتوں کے اندر الہام پذیر شخصیات موجود تھیں اور میری اُمت میں اس قسم کی الہام پذیر شخصیت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔“ صحیحین نے اس روایت کو ملفوظ کیا ہے لیکن صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں ”تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اگرچہ نبی نہ تھے تاہم وہ کلام الہی کے مخاطب ہوتے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درجہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔“

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ (ترمذی۔ حاکم)

✽ حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ (احمد حاکم طبرانی)

✽ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے

بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتا۔ (ترمذی، حاکم، احمد)

اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتا۔“ (امام بیہقی نے فرمایا کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔)

✽ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (گھر کے) اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں (اور خوب باتیں کر رہی تھیں) لیکن جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ زیادہ حق دار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں؟ عورتوں نے جواب دیا: ہاں! آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب! اس بات کو چھوڑو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ نام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے نذرمانی تھی تو دف بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا

شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے وہ بجاتی رہی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے میری موجودگی میں یہ دف بجاتی رہی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ تب بھی یہ دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ (ترمذی)

✽ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے میں ہم نے شور و غل اور بچوں کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! آؤ دیکھو! میں گئی اور ٹھوڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے؟ لہذا میں نے عرض کیا: ”نہیں“ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر میں لوٹ آئی۔ (ترمذی۔ نسائی)

✽ حضرت سدیہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بے شک جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا وہاں میں نے ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا: یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ (میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا) پس مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی۔ اس لیے میں

اٹے پاؤں لوٹ آیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ (متفق علیہ)

✽ حضرت عبدالرحمن بن حمید اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں انہیں یہ حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں اور علی جنتی ہیں (آگے مزید صحابہ کرام کے اسمائے گرامی بیان کیے)۔ (ترمذی۔ نسائی)

✽ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نو آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر میں دسویں آدمی کے بارے میں بھی گواہی دوں تو گناہ گار نہ ہوں گا۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جبل حرا پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حرا! ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر نبی صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پوچھا گیا: وہ کون تھے؟ فرمایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ پوچھا گیا: سوال کون تھا؟ فرمایا: میں تھا۔ (ترمذی۔ نسائی)

✽ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ (اپنی شان کے مطابق) سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ (ابن ماجہ۔ حاکم)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل جنت کا چراغ ہے۔ (ابو نعیم، دیلمی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی (سر دار منافقین مدینہ) مر گیا تو اس کے بیٹے (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر

عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! مجھے اپنا گرتا مبارک عطا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنے باپ کو بطور کفن پہنا سکوں اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں اپنا گرتا عطا فرمادیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں۔ سو آپ ﷺ کو اطلاع دے دی گئی۔ جب آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کو روکا اور عرض کیا: (یا رسول اللہ ﷺ!) کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”آپ خواہ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔“ (التوبہ: ۸۰) سو آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی تو وحی نازل ہوئی: ”اور آپ کبھی بھی ان میں سے جو کوئی مر جائے ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔“ (التوبہ: ۸۴) (متفق علیہ)

✽ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کاش! ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو حکم نازل ہوا ”اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔“ (البقرہ: ۱۲۵) اور پردہ سے متعلق بھی میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کاش آپ ﷺ ازواجِ مطہرات کو پردہ کا حکم فرمائیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواجِ مطہرات آپ پر غیرت کھاتے ہوئے جمع ہوئیں تو میں نے ان سے کہا ”اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواجِ بدلہ میں عطا فرمادے۔“ (التحریم: ۵) تو یہی آیت نازل ہوئی۔ (بخاری۔ احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میرے

رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی: مقام ابراہیم میں، حجاب کے احکام میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ (مسلم)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس پر بات کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مسئلہ پر کچھ کہا تو قرآن حکیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق نازل ہوا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

✽ حضرت عمرو بن شریک ابو میسرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما، تو وہ آیت اتری جو سورۃ البقرہ میں ہے: ”آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔“ (البقرہ: ۲۱۹) پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور اس آیت کی تلاوت کی گئی، انہوں نے پھر عرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما، تو وہ آیت اتری جو سورۃ النساء میں ہے: ”اے ایمان والو! تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔“ (النساء: ۴۳) پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی، انہوں نے پھر عرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما، پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ میں ہے: ”شیطان بھی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوادے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آؤ گے؟“ (المائدہ: ۹۱) پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت تلاوت کی گئی تو وہ کہنے لگے ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے۔ (ترمذی، ابوداؤد نسائی، احمد)

✽ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (رمضان کی رات) سوکراٹھنے کے بعد آزاد عورت یا لونڈیوں میں سے اپنی کسی ایک بیوی کے ساتھ شبِ باشی کی اور پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہو کر یہ بیان بھی کر دیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس

جانا حلال کر دیا گیا ہے“ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک ”پھر روزہ رات (کی آمد) تک پورا کرو“۔ (البقرہ: ۱۸۷)۔ (احمد، حاکم)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لائے حضرت عمرؓ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو حضرت علیؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر فرمایا: لوگوں میں سے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس چادر میں لپٹے ہوئے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) میں ہے وہ اسے اس شخص کی منشاء کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ (حاکم، ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی امت میں ایک یاد و معلم نہ ہوں اور اگر ان میں سے میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمرؓ بن خطاب ہے۔ بے شک حق عمرؓ کی زبان اور دل پر ہے۔ (ابن ابی عامر، طبرانی)

✽ حضرت مجاہدؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ جب کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا۔ (ابن ابی شیبہ)

✽ امام شعبی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے ہاں حضرت عمرؓ کا یہ قول ”البتہ میرے دل میں یہ القاء کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست دے دو گے۔“ بیان کیا گیا تو حضرت علیؑ نے فرمایا: ہم اس چیز کو محال نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سیکینہ (اطمینان و سکون) حضرت عمرؓ کی زبان سے بولتا ہے اور بیشک قرآن میں بعض احکامات حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ (ابن عساکر، سیوطی)

✽ حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: چار چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت میں آیات اتاریں جب یہ آیت مبارکہ: ”اور تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصہ سے فرمائی۔“ (المومنون: ۱۲) نازل ہوئی تو میں نے کہا: پس اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جو سب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے تو اس کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (المومنون: ۱۴۰) (ابن ابی حاتم، قرطبی اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابن کثیر کے ہیں۔)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر چرخی لگی ہوئی ہے پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے لیکن انہیں کچھ مشکل پیش آرہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آئے تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور میں نے کسی بھی جوان مرد کو اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ تمام لوگ خود بھی سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیراب کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی پھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے مراد علم (ظاہری و باطنی) ہے۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہیں بعض کی قمیض سینے تک تھیں اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایسی قمیض تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور نبی اکرم

ﷺ کی وفات کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطابؓ جیسا نیک اور سخی انسان نہیں دیکھا گویا یہ خوبیاں تو ان کی ذات پر ختم ہو گئی تھیں۔ (بخاری)

✽ حضرت ابو طفیلؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا گویا میں ایک زمین سے جس میں مجھ پر کالی اور سرخی مائل سفید بکریاں وارد ہوئیں، پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کو ڈول نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے حوض بھر دیا اور آنے والی تمام بکریوں کو سیراب کر دیا اور میں نے کسی کو عمر سے بڑھ کر ڈول نکالنے والا نہیں دیکھا اور میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ سیاہ بکریوں سے مراد عرب اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مراد عجم ہیں۔ (احمد)

✽ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام بندوں پر بالعموم اور عمرؓ پر بالخصوص فخر کرتا ہے۔ (طبرانی، ابن ابی عامر)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ آسمانی سکون قلب حضرت عمرؓ کی زبان پر بولتا تھا۔ (طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابو نعیم)

✽ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمار! ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا: اے جبرائیل! مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمرؓ کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر (تبلیغ کرتے) رہے یعنی نو سو پچاس برس، تب بھی عمرؓ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک

نیکی ہیں۔ (امام ابو یعلیٰ، طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ان کے والد) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک پرنا لہ تھا جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے راستے میں تھا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز کپڑے پہنے اور اسی دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دو چوزے ذبح کیے گئے تھے پس جب پرنا لہ سے چوزوں کے خون سے ملا ہوا پانی بہنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پانی گرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنا لہ کو وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا اور واپس لوٹ آئے اور اپنا وہ لباس اتارا اور نیا لباس پہنا پھر آ کر لوگوں کی امامت کروائی۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اے عمر رضی اللہ عنہ! اللہ کی قسم! بیشک یہ پرنا لہ اس جگہ پر نصب ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا اور میں اس وقت تک آپ سے تاکید کرتا رہوں گا جب تک آپ میری پیٹھ پر سوار ہو کر اس پرنا لہ کو اسی جگہ پر دوبارہ نہیں لگا لیتے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تھا پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ (امام احمد)

✽ حضرت سالم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان میں ہے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ نے ہماری زمین سے نکال دیا ہے آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف لوٹادیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: تمہارا بڑا ہو بے شک عمر رضی اللہ عنہ بالکل درست کام انجام دینے والے تھے اور میں ان کا کیا ہوا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت ابو سفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکثر ایک چادر اوڑھے ہوئے دیکھا گیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے یہ چادر کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: بے شک یہ مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور خاص دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنائی تھی۔ بے شک عمر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص

بھلائی چاہی پھر وہ رونے لگ گئے۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت اسودؓ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: جب صالحین کا ذکر ہو تو

جلدی سے حضرت عمرؓ کا نام نامی پکارا کرو۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر

ؓ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکلتا تھا پس

جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں

داخل نہیں ہوا (یعنی اس کے بعد فتنوں کے حملوں سے امت محفوظ نہ رہی)۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت ابووائلؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: میں نے کبھی بھی

حضرت عمرؓ کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو انہیں سیدھی راہ

دکھاتا تھا۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت قبیصہ بن جابرؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروقؓ سے بڑھ

کر کوئی عالم باللہ نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کا قاری دیکھا ہے اور نہ ہی ان

سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم رکھنے والا دیکھا ہے۔ (امام ابن ابی شیبہ)

✽ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازو کے ایک

پلڑے میں رکھا جائے اور تمام اہل زمین کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر

ؓ کا علم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔ امام کعبؓ فرماتے ہیں کہ امام اعمش نے فرمایا: میں نے اس

چیز کا انکار کیا پس میں حضرت ابراہیم سے ملا اور ان کے سامنے یہ چیز بیان کی تو انہوں نے کہا میں

اس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ خدا کی قسم! ابن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا

خیال ہے کہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے اس دن چلے گئے جس دن حضرت عمرؓ اس دنیا

سے وصال فرما گئے۔ (طبرانی)

✽ حضرت قدامہ بن مظعونؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھے اور عرج کے علاقہ میں مقام اثابہ کی وادی میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سواری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سواری کو دھکا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قافلہ کے آگے چل رہی تھی تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا: اے فتنوں کو روکنے والے! تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب سواریاں رکیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے قریب گئے اور کہا: اے ابو سائب! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے یہ کون سا نام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسا نہیں خدا کی قسم! میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں یہ نام دیا ہے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ نام دیا ہے جو آج اس لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ایک دن آپ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) ہمارے پاس سے گزرے، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص یعنی عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کو روکنے والا ہے اور آپ کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا: یہ تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک سختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے جب تک یہ تمہارے درمیان زندہ ہے۔ (امام طبرانی)

✽ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مضبوط آدمی تھے تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ”قفل الفتنة“ (فتنوں کو روکنے والے دروازے کا تالا) میرا ہاتھ چھوڑیے۔ پس حضرت عمر نے دریافت کیا یہ قفل الفتنة کیا ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ پس میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں اس وقت تک فتنہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ (عمر) تمہارے درمیان موجود ہے۔ (طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: یہ فتنے کے لئے رکاوٹ ہے اور دستِ اقدس سے حضرت

عمرؓ کی طرف اشارہ فرمایا، تمہارے اور فتنے کے درمیان مضبوطی سے بند ہونیوالا دروازہ رہے گا جب تک یہ تمہارے درمیان موجود رہیں گے۔ (امام بزاز)

✽ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔ عمرؓ جب سے اسلام لائے ہیں شیطان جب بھی ان کے سامنے آیامنہ کے بل گر پڑا۔

✽ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ ”عمر بن خطابؓ اہل جنت کے سراج ہیں۔“

✽ حضرت آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا: ”عمرؓ کی وفات پر اسلام کو رونا چاہیے۔“

✽ شب اسری کے دو لہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔ ”آسمان کا ہر فرشتہ عمرؓ کی تعظیم کرتا ہے۔“

✽ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”ہم صحابہ کرامؓ اس میں شک نہیں کرتے کہ وقار عمر فاروقؓ کی زبان پر بولتا ہے“ کئی محدثین نے یہ روایت بیان کی۔

✽ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا (حضرت صدیق اکبرؓ کی اہلیہ) فرماتی ہیں:۔ ”مہاجرین میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اس وقت آپ علیل تھے۔ اس صحابی نے کہا آپؓ ہم پر عمرؓ کو خلیفہ بناتے ہیں حالانکہ انہوں نے حاکم نہ ہوتے ہوئے ہم پر سختی کی ہے اگر وہ ہمارے حاکم بن گئے تو کیا حال ہوگا پھر تو وہ اور بھی سخت ہوں گے، بہت ہی سخت، آپ بارگاہ الہی میں کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ جب انہیں بٹھایا گیا تو فرمایا کیا تم مجھے (اس عمر میں) اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیتے ہو جب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو عرض کروں گا میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا ہے۔“

✽ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صعصعہ بن صوحان کو فرمایا مجھے عمر بن خطاب

کے اوصاف سناؤ انہوں نے کہا! ”وہ اپنی رعایا سے باخبر تھے ان کے مزاج میں عدل و انصاف رچا بسا تھا، تکبر نام کو نہ تھا، جلد عذر قبول کرتے تھے، ان کا دروازہ کھلا رہتا، ان تک رسائی آسان تھی، وہ حق و صواب کے متلاشی رہتے، ایذا رسانی سے دور رہتے، کمزور کے دوست تھے، سخت مزاج نہ تھے، اکثر خاموش رہتے، بے فائدہ کام سے دور رہتے تھے۔“

✽ امام ابو بکر خراکلی فرماتے ہیں:- ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں کتنے محو تھے اور کس قدر معرفت رکھتے تھے۔ بخدا! وہ اس شعر کے مصداق تھے۔ ”وہ اپنی رائے سے امور کے نتائج دیکھنے والے ہیں گویا کہ آج ان کی آنکھ آنے والے کل پر ہے۔“

✽ حضور فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کریمین کے متعلق فرمایا:- ”اللہ تعالیٰ نے مجھے چار وزیروں سے تقویت دی ہے دو آسمان والوں سے جبرائیل و میکائیل اور دو زمین والوں سے ابو بکر و عمر۔“

✽ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:- ”ہر نبی کے ساتھیوں میں کچھ خواص ہوتے ہیں اور میرے اصحاب میں سے خواص ابو بکر و عمر ہیں۔“

✽ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:- ”ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔“

✽ حبیب کر دگار سید الشافعیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔“

✽ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:- ”ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔“

✽ ”ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدم کیا ہے۔“

✽ ”قیامت کے دن، ابو بکر و عمر اس طرح اٹھائے جائیں گے اور آپ نے انگشت

شہادت، درمیانی انگلی اور چھنگلی سے اشارہ فرمایا۔

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آمیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلوٰۃ (یعنی دعا) پڑھ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس سے مخاطب ہو کر) فرمایا: (اے عمر!) آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں رفیقوں (یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ کثرت یہ سنتا تھا، ”میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے“ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو (اسی طرح) آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ رکھے گا۔ (متفق علیہ)

فضائل

خلیفہ سوم ذوالنورین

سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں عفان کے گھر پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب پانچویں پشت میں عبدمناف پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان نام اور غنی لقب تھا۔ غنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی مال و متاع میں بھی بہت متمول تھے اور قبول اسلام کے بعد بھی دل کھول کر سخاوت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی دو نوروں والا بھی ہے، وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح یکے بعد

دیگرے ان سے ہوا اس لیے ان کا یہ لقب زیادہ مشہور ہوا کیونکہ یہ فضیلت کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کسی نبی کی دو بیٹیوں کا عقد ایک ہی شخص سے ہوا ہو۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

✽ ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کروں۔“ (احمد طبرانی)

✽ حضرت عصمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی (حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا) جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں فوت ہو گئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عثمان کی شادی کراؤ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا اور میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق ہی کی تھی۔“ (طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان الجعفی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حضرت حسین الجعفی نے پوچھا: اے بیٹا! کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالثورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا۔ اسی لیے انہیں ”ذوالثورین“ (یعنی دو زور والا) کہا جاتا ہے۔ (بیہقی، لا لکائی)

✽ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے ایک طویل روایت مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اس پر ایمان لایا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا میں نے دو ہجرتیں کیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دامادی پایا اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق

پرست پر بیعت بھی کی اور خدا کی قسم! میں نے کبھی حضور نبی اکرم ﷺ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی آپ ﷺ کے ساتھ دھوکہ کیا یہاں تک کہ آپ ﷺ وصال فرما گئے۔“ (امام احمد)

آپ کو صاحبُ البجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ہجرت آپ ﷺ نے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ محترمہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کی اور دوسری ہجرت آپ ﷺ کی ہجرتِ مدینہ تھی۔ آپ ﷺ کے اس مرتبہ کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔

✽ حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ﷺ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ پس کافی عرصہ تک حضور اکرم ﷺ کو ان کے متعلق کوئی خبر نہ ملی اور آپ ﷺ روزانہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے۔ پس ایک دن ایک عورت ان کی خیریت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک عثمان ﷺ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔“ (طبرانی)

آپ ﷺ کی سب سے بڑی فضیلت آپ ﷺ کا ”صاحبِ شرم و حیا“ ہونا ہے اور آپ ﷺ کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ سلطان العارفين حضرت سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالبِ مولیٰ کو حیا میں حضرت عثمان غنی ﷺ کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ ﷺ حیا میں اتنے کامل تھے کہ آپ ﷺ نے تنہائی میں بھی کبھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ آپ ﷺ کی اس فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

✽ حضرت ابو موسیٰ ﷺ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا اور آپ ﷺ کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پس جب حضرت عثمان ﷺ آئے تو آپ ﷺ نے اسے ڈھانپ لیا۔“ (بخاری)

✽ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ میرے گھر میں (بستر پر) لیٹے ہوئے تھے اس عالم میں کہ آپ ﷺ کی دونوں پنڈلیاں مبارک کچھ ظاہر ہو رہی تھیں، حضرت ابو بکر ؓ نے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے پھر حضرت عمر ؓ نے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے انہیں بھی اجازت دے دی جبکہ آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے پھر حضرت عثمان ؓ نے اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ حضرت عثمان ؓ آ کر باتیں کرتے رہے جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! حضرت ابو بکر ؓ آئے تو آپ نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا، حضرت عمر ؓ آئے تو تب بھی آپ نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا اور جب حضرت عثمان ؓ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔“ (مسلم، ابن حبان)

✽ حضرت عائشہ اور حضرت عثمان ؓ بیان فرماتے ہیں ”حضرت ابو بکر ؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ سے اجازت طلب کی اور آپ ﷺ بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے آپ ﷺ نے انہیں اسی حالت میں اجازت دے دی اور ان کی حاجت پوری فرمادی۔ وہ چلے گئے تو حضرت عمر ؓ نے اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے انہیں بھی اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے، حضرت عثمان ؓ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درست کر لیے، پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمر ؓ کے لیے اس قدر اہتمام نہ فرمایا۔ جس قدر حضرت عثمان ؓ کے لیے فرمایا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عثمان ایک کثیر الحیا مرد ہے اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے اسی حال میں آنے کی اجازت

دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت نہیں بیان کر سکے گا۔“ (مسلم، احمد)

✽ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے، پس آپ ﷺ نے اپنا (اوپر لپٹنے کا) کپڑا اپنی مبارک رانوں پر رکھ لیا، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائی اور آپ ﷺ اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی پس آپ ﷺ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ ﷺ اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر آپ ﷺ کے کچھ دیگر صحابہ کرام آئے تو آپ ﷺ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب کی آپ ﷺ نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ ﷺ اپنی اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ﷺ نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا پھر انہیں اجازت عنایت فرمائی۔ پھر وہ صحابہ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر باہر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی خدمت اقدس میں ابو بکر، عمر، علیؓ اور دوسرے صحابہ کرام حاضر ہوئے لیکن آپ اپنی پہلی حالت میں تشریف فرما رہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟“ (احمد، طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا دار عثمان بن عفان ہے۔“ (ابو نعیم، ابن ابی عامر)

✽ حضرت بدر بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”یوم الدار“ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرہ کے دن) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، ہم نے کہا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور

نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا یہ شخص شہید ہے اس کی قوم اسے قتل کرے گی اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں، بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے (خوارج کے) ایک گروہ کو دور کیا۔ (طبرانی)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ”عثمان کا ہاتھ“ قرار دیا۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قریش مکہ سے بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے اس موقع پر حضور اکرم ﷺ نے تمام صحابہ سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے اس لیے حضور اکرم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا ”یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔“ یہ فضیلت بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے یہ فرما کر آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دست مبارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔ (ترمذی)

آپ ﷺ کی ایک فضیلت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو قریش مکہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ

کہہ کر طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے محبوب حضور اکرم ﷺ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، میں طواف نہیں کروں گا۔

آپ ﷺ کا لقب غنی ہے، آپ ﷺ مال دار تھے، آپ ﷺ کا مال صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے تھا۔ جب بھی مسلمانوں یا اسلام پر کڑا وقت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی ﷺ آگے بڑھے اور اپنا مال راہِ خدا میں حاضر کر دیا۔

جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق ﷺ نے نصف مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس وقت خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی ﷺ نے عرض کیا کہ میں ایک سواونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی ﷺ پھر اٹھے اور کہا کہ میں دو سواونٹ پھر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی ﷺ نے کہا کہ میں تین سواونٹ مزید دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کیلئے دوبارہ ترغیب دی تو مجسم جو دو سواونٹ سیدنا حضرت عثمان غنی ﷺ نے چوتھی بار کہا کہ میں دو سواونٹ اور ایک ہزار اشرفیاں مزید دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی ﷺ کی اس بے مثال فیاضی و سخاوت پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے ”ماضر عثمان ما عمل بعد ہذا یوم“ یعنی آج کے بعد عثمانؓ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمانؓ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔

ایک مرتبہ سخت قحط پڑا تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت سیدنا عثمان غنی ﷺ کے

ایک ہزار اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے، مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زیادہ قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ”فقراءِ مدینہ“ کو دے دیا ہے۔

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کے ثرکی گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کا لباس زیب بدن ہے اور کہیں جانے میں جلدی فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق و اشتیاق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثمانؓ نے ایک ہزار اونٹ غلہ کے خیرات کئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے اور اسی صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہو رہا ہے مجھے ان کی محفل عروسی میں شریک ہونا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تو تھے ہی اس لحاظ سے گھر کے آدمی تھے لیکن ان کی حیاداری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ازواجِ مطہرات کو حج کیلئے لے جاتے اور حج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ ﷺ پوری کرتے اور یہ بڑا اعزاز ہے جو آپ ﷺ کو حاصل ہوا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیٹھے پانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی دقت و تکلیف تھی، صرف ایک بیٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام ”بیر رومہ“ تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستہ میں وقف کر دے اس کو جنت ملے گی اور حضرت عثمان غنی ﷺ نے اس کنویں کو خرید

کے وقف کر دیا۔

✽ حضرت ابواشعث صنعانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”چند خطباء شام میں کھڑے ہوئے تھے ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ بھی تھے ان میں سے سب سے آخری آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ تھا انہوں نے فرمایا: اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کا نزدیک ہونا بیان کیا اتنے میں ایک شخص کپڑے سے سرمہ لپیٹے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا: (فتنہ و فساد) کے دن یہ شخص حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف مڑا اور عرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیا یہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں یہی ہیں۔“ (ترمذی، احمد)

✽ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ (ترمذی، ابن ابی عامر)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ”بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن قیام فرما ہوئے اور فرمایا: بیشک عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مصروف ہے اور بیشک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ مقرر کیا اور ان کے علاوہ جو کوئی اس دن غائب تھا کسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔“ (ابوداؤد، طحاوی)

✽ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: میرے صحابہ میں سے کسی کو میرے پاس بلاؤ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر میں نے عرض کیا: عمر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، پھر میں

نے عرض کیا: آپ کے چچا کے بیٹے علیؑ کو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، پھر میں نے عرض کیا: عثمانؓ کو بلاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، پس جب وہ آگئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: (اے عائشہ!) ذرا پیچھے ہو (کر بیٹھ) جاؤ پھر آپ ﷺ ان سے سرگوشی فرمانے لگے۔ حضرت عثمانؓ کا رنگ تبدیل ہونے لگا پھر یومِ دار (جس دن حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا) آیا اور حضرت عثمانؓ اس میں محصور ہو گئے ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ قتال نہیں کریں گے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: نہیں بے شک حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے (اس دن کی) وصیت فرمائی تھی اور میں اس وصیت پر صبر کرنے والا ہوں۔“ (احمد، ابویعلیٰ)

✽ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ ایک گھر میں تھے اور اس گروہ میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر آدمی اپنے کفو (برابر) کی طرف کھڑا ہو جائے اور خود حضور نبی اکرم ﷺ حضرت عثمانؓ کی طرف کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے گلے لگایا اور فرمایا: اے عثمان تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔“ (حاکم، امام ابویعلیٰ)

✽ حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں ”ایک دفعہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کنگھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ ابھی ابھی میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے آپ ﷺ کے گیسو مبارک سنوارے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اے رقیہ! تم ابو عبد اللہ (حضرت عثمان غنیؓ) کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا: بہترین انسان۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی عزت بجالاتی رہو بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔“ (احمد، طبرانی)

✽ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان فرماتے ہیں ”حضور نبی اکرم ﷺ ایک باغ میں داخل

ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فرمایا پس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔“ (بخاری)

✽ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک آدمی حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے آپ ﷺ کے ساتھ مصافحہ کیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑایا جب تک خود اس آدمی نے آپ ﷺ کا ہاتھ نہ چھوڑا پھر اس آدمی نے آپ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اہل جنت میں سے ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن سہر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ”بے شک ایک آدمی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں اتنا بغض میں نے کسی سے کبھی بھی نہیں رکھا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو نے نہایت ہی بُری بات کہی ہے تو نے ایک ایسے آدمی سے بغض رکھا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔“ (احمد)

✽ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھر انہوں نے

فرمایا: میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، جس نے جبل (أحد) کے دن کا کلام سنا ہو جو حضور نبی اکرم ﷺ نے پہاڑ کے ہلنے کے وقت فرمایا تھا کہ اے پہاڑ! ٹھہر جاؤ کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی صدیق اور دو شہیدوں کے اور کوئی نہیں اور میں اس وقت حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس شخص سے دریافت کرتا ہوں جو حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیعت رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے (اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے) فرمایا تھا: یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، جس نے حضور نبی اکرم ﷺ سے جیشِ عمرہ کے دن سنا ہو کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ایسا شخص کون ہے جو مال مقبول کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے؟ اور میں نے آپ ﷺ کی یہ خواہش سنتے ہی آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرادی۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس شخص سے پوچھتا ہوں، جس نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس مسجد کی توسیع جنت میں گھر کے بدلے میں کرے؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے میں خرید لیا سب لوگوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت فرمایا: میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو پیرِ رومہ (رومہ کے کنویں) کے سودے کے وقت حاضر تھا، میں نے اسے اپنے مال سے خریدا اور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ ﷺ کے اس فرمان کی بھی من و عن تصدیق کی۔“ (نسائی، احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فتنہ کا ذکر

کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: اس میں یہ مظلوم شہید ہوگا۔“ (ترمذی)

✽ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت

میں بیٹھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے قریب

ہوئے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اے عثمان! تمہیں شہید کیا جائے گا جبکہ تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہو گے اور تمہارا خون اس آیت: ”پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے“ (البقرہ: ۱۳۷) پر گرے گا اور قیامت کے روز تم ہر طرح سے ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اس مقام و مرتبہ پر مشرق و مغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں (کی تعداد) کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے۔“ (حاکم)

✽ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ایک قمیض (قمیض خلافت) پہنائے گا سوا اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم ان کی خاطر اسے مت اتارنا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

✽ حضرت بشیر اسلمی ؓ بیان فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں پانی کی شدید قلت محسوس ہوئی اور قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس ایک چشمہ تھا جسے رومہ کہا جاتا تھا اور وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک قربہ ایک مد کے بدلے میں بیچتا تھا پس آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے یہ چشمہ جنت کے بدلے میں بیچ دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری اور میرے عیال (کی گذر بسر) کے لیے اس چشمہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ خبر حضرت عثمان ؓ کو پہنچی تو انہوں نے اس آدمی سے وہ چشمہ پینتیس ہزار دینار کا خرید لیا اور حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں اس چشمہ کو خرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی اس کے بدلہ میں جنت میں چشمہ عطا فرمائیں گے؟ جس طرح اس آدمی سے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں (عطا کروں گا) تو اس پر حضرت عثمان ؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! وہ چشمہ میں نے خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا ہے۔“ (طبرانی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ہر

نبی کا اس کی اُمت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔“
(امام ابو نعیم، امام دیلمی)

✽ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں ”ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔“ (امام دیلمی)

ازواج و بنات رسول ﷺ

خلفائے راشدین کے بعد ازواجِ مطہرات اور بناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان میں دعوت و تبلیغ، رفاقت اور غمگساری کے اعتبار سے بلند مرتبہ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو بجا طور پر افضل النساء اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار اور معاون رہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی آپ رضی اللہ عنہا نے تصدیق کی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ کے سینکڑوں اونٹ تجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے لیکن جب آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو کفن کے لیے کپڑا تک موجود نہ تھا۔ اسلام میں دو ہی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ علم کی حفاظت کی اور نصف صدی سے زیادہ اس کی ترویج کی۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں پر ایک تہائی فقہ کی بنیاد ہے۔ علمی حیثیت سے اُم سلمیٰ رضی اللہ عنہا کا مقام بھی ممتاز ہے۔ بنات میں سب سے بلند مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے جن کا ذکر فضائل اہل بیت میں ہو چکا ہے۔

عشرہ مبشرہ

ان کے بعد صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ ممتاز ہیں۔ وہ دس صحابہ کبار ہیں جنہوں نے ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیتے جی جنت کی بشارت سنی۔ ابتدائی چار خلفائے راشدین کے علاوہ اس محفل میں حسب ذیل چھ صحابہ بھی مژدہ جنت کے حامل ہیں۔

- ۵۔ حضرت زبیرؓ ابن عوام ۶۔ حضرت سعدؓ بن ابی وقاص ۷۔ حضرت عبدالرحمنؓ ابن عوف ۸۔ حضرت ابو عبیدہؓ ابن جراح ۹۔ حضرت طلحہؓ ابی عبید اللہ ۱۰۔ حضرت سعیدؓ بن زید۔

مہاجرین میں سابقون الاولون

فضیلت میں یہ وہ طبقہ ہے جس نے حق کے راستے میں پہل کی ہر طرح کی مصیبت اور ظلم برداشت کئے۔ بڑی استقامت سے اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے اپنا ناطہ جوڑے رکھا۔ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ ان میں قابل ذکر یہ ہیں۔

”حضرت زید ابن حارثہ، حضرت بلال حبشیؓ، حضرت عمارؓ ابن یاسر، حضرت خبابؓ ابن الارث، حضرت عبداللہؓ بن مسعود، حضرت خالدؓ بن سعید بن العاص، حضرت صہیبؓ رومیؓ، حضرت عثمانؓ بن مظعون، حضرت ارقمؓ بن ارقم، حضرت جعفرؓ بن ابی طالبؓ، حضرت ابوسلمہؓ، حضرت عمرؓ بن غصہ۔“

عورتوں میں حضرت عباسؓ کی زوجہ لبا بہ رضی اللہ عنہا بنت حارث جن کا لقب ام الفضل تھا حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ، حضرت ام رومانؓ، حضرت فاطمہ بنت خطابؓ ابتدائی ایمان لانے والوں کی صف میں شامل تھیں۔

انصار میں سابقون الاولون اور فضائل انصار

نبوت کے گیارہویں سال جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آئے جو عقبہ کی گھائی پر مکہ سے چند میل دُور ٹھہرے تھے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیلئے ان کے پاس بھی پہنچے۔ یہودیوں سے میل جول کی وجہ سے یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متوقع بعثت سے باخبر تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وحی الہی کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے ان چھ افراد کے نام یہ ہیں۔

حضرت ابو امامہ بن زرارہ، حضرت عوف بن الحارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت سعد بن ربیع۔

یثرب جا کر ان پاک سرشت صحابہ کرام نے نور ایمان پھیلایا آئندہ سال (12 نبوت میں) حج کے موقع پر 12 افراد آئے۔ ان میں حضرت سعد بن ربیع کے علاوہ باقی پانچ وہی تھے اور مزید سات افراد دولت ایمان سے بہرہ ور ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

حضرت زکون بن قیس، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت خالد بن مخلد، حضرت عباس بن عبادہ، حضرت معاذ بن الحارث، حضرت ابوالہیشم مالک بن یہان، حضرت عدیم بن ساعدہ۔

ان سے توحید، اطاعت رسول، چوری، زنا، بچیوں کے قتل، جھوٹی تہمت اور چغلی سے اجتناب پر بیعت ہوئی، یہی پہلی بیعت ہے جو بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ اس موقع پر ان کی تعلیم اور دعوت کیلئے حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن اُمّ کلثوم کو ساتھ بھیجا گیا۔ سن ۱۳ نبوت میں حج کے موقع پر دوسری بیعت عقبہ ہوئی اس میں اوس اور خزرج کے کل ۷۲ مرد اور دو عورتیں تھیں۔ یہ اس ارادے سے آئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر یثرب میں ہجرت کی دعوت دیں۔ بیعت ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے لئے بارہ اشخاص چن لئے تھے اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے میں تم میں سے

بارہ نقیب منتخب کرتا ہوں۔ تم یثرب واپس جا کر اشاعتِ اسلام کرو، مکہ والوں کیلئے میں خود یہ کام انجام دوں گا۔“

ان نقیبانِ انصار میں ۹ لوگ قبیلہ خزرج اور ۳ لوگ قبیلہ اوس کے تھے۔ یہ بارہ نقباء انصار کے سابقون الاولون میں فضیلت کے اسی مقام پر ہیں جہاں مہاجرین میں عشرہ مبشرہ ہیں۔ قبیلہ خزرج کے نقیب یہ افراد ہیں۔

حضرت اسید بن زراہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت سعد بن ربیع، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت براء بن معرور، حضرت عبداللہ عمرو بن حرام، حضرت سعد بن عبادہ۔

تین نقیبانِ اوس میں:-

حضرت اسید بن خضیر، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت ابولہبیشم بن جہان شامل ہیں۔

انصار کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

✽ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ (متفق علیہ)

✽ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق کی علامت انصار سے بغض رکھنا اور مومن کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ (امام مسلم)

✽ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انصار سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور ان سے بغض صرف منافق رکھتا ہے (اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ ان سے صرف کافر بغض رکھتا ہے) پس جس نے ان سے محبت رکھی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار صحابہ تھے۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔ (مسلم، ترمذی، نسائی)

✽ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے انصار سے محبت کی پس اس نے میری محبت کی خاطر ان سے محبت کی اور جس شخص نے انصار سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ (طبرانی)

✽ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! انصار اور انصار کے بیٹوں، اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خدا! انصار اور انصار کے بیٹوں اور انصار کی بیویوں اور انصار کی ذریت (اولاد) اور وہ انصار جو میرے مخلص دوست اور ہم راز ہیں۔ ان کی مغفرت فرما اور اگر لوگ کسی ایک گھائی کی طرف چلتے اور انصار کسی اور گھائی کی طرف چلتے تو میں انصار کی گھائی کی طرف چلتا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہی ایک شخص ہوتا۔ (امام احمد، طبرانی)

✽ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا: خبردار! بے شک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ترکہ اور جاگیر ہوتی ہے اور بے شک میرا ترکہ اور جاگیر انصار ہیں۔ (طبرانی، ابویعیم، ضیاء المقدسی)

ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم

ہجرت کا حکم آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ کے فوراً بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقام ہجرت کی نشان دہی فرمائی۔ ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن اُمّ کلثوم کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے رہ نورد شہر یشرب ہوئے۔ پھر بیس آدمیوں کی ایک ٹولی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو علی الاعلان نکلے، جسم کو اسلحہ سے سجایا سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا رخ کیا طواف سے فارغ ہوئے تو صحن کعبہ میں جمع قریش کے افراد کو مخاطب کیا فرمایا! ”میں ہجرت کر رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم اور اپنی ماں کو پیچھے روتا ہوا چھوڑے، تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے“ کسی نے مقابلہ کی جرأت نہ کی البتہ کچھ کمزور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر ہو گئے۔

حضرت صہیب غلام تھے مگر بڑے مالدار۔ جب ان کی ہجرت کی خبر کفار کو ہوئی تو سدا راہ ہوئے اور کہا یہ مال لیے کہاں چلے ہو؟ جو یہاں کمایا ہے اسے لے جانے نہیں دیں گے۔ تو فرمایا جب تک میرے ترکش میں آخری تیر ہے کوئی مجھے روک نہ سکے گا۔ ہاں مال و دولت چاہتے ہو تو لے لو اور مجھے جانے دو۔ یوں سب کچھ لٹا کر اپنی جان بچا کر قبا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ”تم نے بڑی پر منفعت تجارت کی ہے“۔

ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ سے یشرب کے لئے روانہ ہوئے یہی وہ ہستی ہیں جن کو قرآن صحابی رسول کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی امانتیں واپس کرنے کیلئے مکہ میں چھوڑا۔ قبا میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ بن ہدم کے گھر پر قیام فرمایا۔ مسجد قبا کی بنیاد ڈالی تین دن کے بعد..... جمعہ کے دن جانب یشرب روانہ ہوئے راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو

سالم کے محلے میں نماز ادا فرمائی جو پہلی جمعہ کی نماز تھی اس کے بعد جنوبی سمت سے یثرب میں داخل ہوئے اس دن سے یہ شہر ”مدینۃ النبی“ کہلانے لگا اور اسے یثرب کہنے سے منع کیا گیا۔

مدینہ میں پہلا کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے آسرا اور بے سروسامان مہاجرین کی آباد کاری پر توجہ فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے گھر پر مواخات کی غرض سے صحابہ کو جمع کیا ان کی تعداد نوے بتائی جاتی ہے جس میں ۴۵ مہاجر اور ۴۵ انصار تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار میں بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ انصار و مہاجرین وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں جنہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سابقون الاولون میں ایسے تمام صحابیوں کا شمار ہوتا ہے۔

مہاجرین کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

✽ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر ہجرت (کی فضیلت) نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ (متفق علیہ)

✽ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت قبول فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں پر (یعنی کفر و جہالت کی طرف) واپس نہ لوٹانا۔ (متفق علیہ)

کاتبانِ وحی

بعض علماء نے فضیلت میں مجاہدین بدر سے پہلے کاتبانِ وحی کا مقام رکھا ہے مدینہ میں ان کی تعداد ۴۰ تک پہنچ گئی۔ پہلی وحی کو لکھنے کا شرف حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید بن العاص کو اور آخری وحی لکھنے کا امتیاز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔

اہل بدر

حق و باطل کے پہلے معرکہ ”یوم الفرقان“ میں حصہ لینے والا طبقہ بلند مقامِ فضیلت کا حامل ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا ”اب تم جو چاہو کرو میں تم کو بخش چکا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا آپ ﷺ اہل بدر کو مسلمانوں میں کیسا سمجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ﷺ نے فرمایا! سب مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو فرشتے میدانِ بدر میں حاضر ہوئے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا مقام اس لئے بلند ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے اور ان پر جنت واجب ہوگی۔ ان کی تعداد عام روایتوں کے مطابق ۳۱۳ ہے۔

اہل بدر کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

✽ حضرت علیؓ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اصحابِ بدر کے لیے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا فرمایا: میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔“ (متفق علیہ)

✽ حضرت قیسؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے بدری صحابہ کا پانچ پانچ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا اور انہوں نے فرمایا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے اصحاب پر ضرورتاً ترجیح دوں گا۔ (بخاری)

✽ حضرت جابرؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حاطبؓ کا ایک غلام حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حاطبؓ کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یا رسول

اللہ ﷺ! حاطب دوزخ میں داخل ہو جائے گا، حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم جھوٹے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنگ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا۔ (مسلم، ترمذی، نسائی، احمد)

✽ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی شکایت حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں کی تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے خالد! تم اہل بدر میں شامل شخص کو کیوں تکلیف دیتے ہو اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان کے اس ایک عمل کے اجر کو نہیں پاسکتے، حضرت خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا تو میں نے انہیں جواب دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: خالدؓ کو تکلیف مت دو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے سروں پر مسلط کر رکھا ہے۔ (ابن حبان، طبرانی)

اہل احد

اہل بدر کے بعد فضیلت کے اعتبار سے وہ مجاہدین ہیں جو غزوہ احد میں شریک رہے۔ میدان جنگ میں تو ایک ہزار مجاہدین آئے تھے لیکن اس المنافقین عبداللہ ابی صلول عین وقت پر اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ اس طرح اہل ایمان کی تعداد ۷۰۰ ہوئی۔

شركائے خندق

۵ھ میں مدینے کو قریش اور عرب قبائل نے گھیر لیا مسلمانوں نے اپنے شہر کے تین طرف ایک خندق کھودی اور کئی دنوں تک محصور رہے اس میں حصہ لینے والے صحابہ فضیلت میں اہل احد کے بعد ہیں۔

بیعت رضوان کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کیلئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ۱۴ سو اور دوسری روایت کے مطابق ۱۶ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کارواں ٹھہرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بنا کر مکے بھیجے گئے۔ خبر آئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بول کے پیڑ کے نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابہ سے بیعت لی یہ اصحاب بڑے صاحب فضیلت ہیں۔

اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا ”بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا۔ جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ کو بھی معلوم تھا بس اللہ نے انہیں تسکین عطا فرمائی اور فتح بھی دے دی۔“

بیعت رضوان کے موقع پر موجود صحابہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن ہمیں فرمایا ”تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہو اور ہم چودہ سو افراد تھے اور اگر آج میں (یعنی حضرت جابر بن عبد اللہ جو کہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے) دیکھ سکتا ہوتا تو تمہیں اس درخت کی جگہ دکھا دیتا۔“ (متفق علیہ)

فتح مکہ

سورہ حدید میں ارشاد فرمایا گیا ”جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔“ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ بلند ہیں جنہوں نے فتح

کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔

شان صحابہ رضی اللہ عنہم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو زمین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن بن گئی یہ اعلان اہل قریش کے لئے بالکل غیر متوقع تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ”صادق داین“ کا ایک ان کے نظامِ باطل کے لئے خطرہ بن جائے گا ”وہ شرم و حیا“ کا پتلا جس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہتی تھیں ان کے آباؤ اجداد کے مذہب اور نظام کو چیلنج کرے گا۔ اعلان اسلام کا صاف مطلب یہ تھا کہ نہ صرف قریش، اہل مکہ بلکہ پورے عرب معاشرے کے ساتھ اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ تمام اہل عرب ایک طرف اور ”اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف“ یہ بڑا سخت وقت تھا ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا مطلب موت تھا۔ مگر یہ نفوسِ قدسیہ ایک ایک کر کے جان ہتھیلی پر لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مددگار، ساتھی اور ہمراز بنے۔ انہوں نے ہر مصیبت، دکھ، تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، ہر آزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کیا، انہیں ستایا گیا، کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، زنجیریں باندھ کر پتی ہوئی صحرا کی ریت پر کھینچا گیا، تختہ دار پر چڑھایا گیا، لوہے کے اوزار گرم کر کے داغ لگائے گئے، پتھروں کے نیچے دبایا گیا، غرض ظلم و ستم کا ہر پہاڑ توڑا گیا لیکن یہ ظلم و ستم ان نفوسِ قدسیہ کو تاریخ جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے یاد کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے علیحدہ نہ کر سکا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ساتھی اور رفیق تھے کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتے ہوں۔ یہ تعلق یا قبول اسلام کا معاملہ نہ تھا بلکہ ”عشق“ کا معاملہ تھا ان کے قلوب کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ ”محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ آنکھوں سے اوجھل ہو۔ اس عشق کے آداب کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے:-

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور

تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کم ہو جانے کا تم کو ڈر ہے۔ اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے۔ (توبہ 24)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے لئے مندرجہ بالا آیت مبارکہ کے ایک ایک حکم پر عمل کیا اور راہِ حق میں کامیاب و کامران ہو کر نکلے۔

صحابہ عاشقانِ رسول ﷺ کا وہ گروہ ہے جن کی ہمسری کا تصور بھی ناممکنات میں سے ہے اور صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا منکر اور ان سے بغض رکھنے والا مردود ملعون، لعنتی، دوزخی اور رافضی ہے۔



تعارف

اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجز سے پاک و طاہر فرما دیا ہے اور وہ سفینہ نوح علیہ السلام کی مانند ہیں جو ان سے وابستہ ہو افلاح پا گیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں جو کسی ایک ستارہ سے وابستہ ہو اصراطِ مستقیم پا گیا زمانہ قدیم میں لوگ ستاروں کی مدد سے راستہ تلاش کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشارہ مبارک بھی اسی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی رو سے یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے بھی حالتِ ایمان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا وہ جنتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ آپ اپنی فکر کریں:

مومن کے لئے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یکساں محبت ایمان کا حصہ ہے اور کسی ایک کے بارے میں دل میں ذرا سانسفی خیال ایمان کو سلب کر دیتا ہے اسلام میں ہمیشہ دو گروہ ایسے موجود رہے ہیں جن میں ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا دعویٰ کرتا اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے خارجی کہا گیا ہے اور امت سے علیحدہ ہونے والا یہ پہلا گروہ ہے جو امت سے خارج ہو گیا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دعویٰ تو اہل بیت سے محبت کا کرتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتا ہے یہ رافضی ہے ان دونوں گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائی نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو حق پر متحد فرمائے۔

خادم سلطان الفقیر حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے اپنی اس تصنیف لطیف میں طالبان حق اور متلاشیان صراطِ مستقیم کے لئے فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا اس کتاب سے ہر مسلک اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اہل شعور حضرات کے دل ہر قسم کے بغض و عناد اور فتنہ و فساد سے پاک و صاف ہو کر عشق و محبت اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گداز ہو جاتے ہیں اور مومن کا راہ معرفت اور وصال حق تعالیٰ کا سفر آسان اور ممکن ہو جاتا ہے:



سلطان الفقیر پبلکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

سلطان الفقیر ہاؤس

4/A- ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790
Tel: 042-35436600, 0322-4722766

ISBN: 978-969-9795-09-1



● www.tehreek-dawat-e-faqr.com ● www.sultan-ul-faqr.com
E-mail: sultanulfaqr@tehrekdawatefaqr.com